

October 04, 2024

Form-6

The General Manager,

Pakistan Stock Exchange Limited, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.

Notice of 62nd Annual General Meeting Subject:

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of 62nd Annual General Meeting of Javedan Corporation Limited to be held on Saturday, 26 October 2024 at 10:30 a.m. at Nava Nazimabad Gymkhana, Naya Nazimabad, Manghopir Road, Karachi.

Please circulate the same among the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

For JAVEDAN CORPORATION LIMITED

DO

Kara Muneer Gader **Company Secretary**

Encl: As Above

Javedan Corporation Limited

Registered Office: 1st Floor, Arif Habib Center 23 M.T Khan Road, Karachi Pakistan-74000, Phone: +92 (21) 32468274 Fax: +92 (21) 32466824 Site Office: Naya Nazimabad, Manghopir Road, Karachi-75890 Phone: +92 (21) 36770141-2, Mobile: +92 (332) 3779670 UAN 111-511-611 Web: www.jcl.com.pk

JAVEDAN JAVEDAN CORPORATION LIMITED

Notice 62nd Annual General Meeting

Notice is hereby given that Sixty Second Annual General Meeting ('AGM') of the shareholders of Javedan Corporation Limited (the Company) will be held on Saturday, October 26, 2024 at 10:30 a.m. at Naya Nazimabad Gymkhana, Naya Nazimabad, Manghopir Road, Karachi to transact the following business

- ORDINARY BUSINESS
- To confirm minutes of the 61st Annual General Meeting held on October 27, 2023. To receive, consider and adopt annual audited financial statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports 2. thereon for the year ended June 30, 2024, together with the Audited Consolidated Financial Statement of the Company and the Auditors Report thereon for the year ended June 30, 2024.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 (Act) and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements have been uploaded on website of the Company, which can be downloaded from the following weblink or QR enabled code:

http://jcl.com.pk/financial-statements



- To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2025. The Board of Directors, on the recommendation of Audit 3. Committee have recommended for reappointment of M/s. Yousuf Adil Chartered Accountants and M/s. Reanda Haroon Zakaria Aamir Salman Rizwan & Co., Chartered Accountants as external auditors
- To consider and approve final cash dividend for the year ended 30 June 2024 @ 40% i.e. PKR 4 per ordinary share as recommended by 4. the Board of Directors.
- 5. To elect 9 (nine) Directors, as fixed by the Board in accordance with the provision of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of 3 (three) years commencing from October 26, 2024. The following are names of the retiring Directors of the Company, who are also eligible to offer themselves for re-election in respective Director category (except for Mr. Alamgir A. Shaikh) as specified in regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the CCG-2019) as amended through SECP SRO 906(I)/2023. dated July 07, 2023:

	Mr. Arif Habib	2. Mr. Abdus Samad Habib	3. Mr. Muhammad Kashif	4. Mr. Muhammad Ejaz
	Mr. Javed A. Kureishi	6. Ms. Darakshan Zohaib	7. Mr. Abdullah Ghaffar	8. Mr. Abdul Qadir Sultan
6	Mr. Alamgir A. Shaikh			

SPECIAL BUSINESS

To authorize the Board of Directors of the Company to approve those transactions with Related Parties (if executed) during the financial year ending June 30, 2025 which require approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the companies Act, 2017 read with Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018, by passing the following special resolution with or without modification RESOLVED THAT

The Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case-to-case basis for the financial year ending June 30, 2025.

FURTHER RESOLVED THAT

The transactions approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders u/s 207 and / or 208 of the companies Act, 2017 read with Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018 (if triggered) and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval (if required).

To consider and if deemed fit, to pass the following Special Resolutions with or without modification(s):

Investment in Associated Companies & Associated Undertakings

RESOLVED THAT

the consent and approval be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, for the following limit of fresh investment in an associated company and undertaking for a period upto next annual general meeting, and subject to the terms and conditions as mentioned in the Annexure-A of Statement under Section 134(3)

FURTHER RESOLVED THAT

the consent and approval be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 read with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 for renewal of following equity investments limits in associated companies and associated undertaking as are also mentioned in the Annexure-B of Statement under Section 134(3) against which approval had been sought in previous general meeting(s), upto unutilized amount, and for a period upto next annual general meeting, which shall be renewable in next annual general meeting(s) for further period(s).

FURTHER RESOLVED THAT

the consent and approval be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 read with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 for renewal of following sanctioned limits of loans and/or advances and/or running finance and/or guarantees and/or third-party collateral in associated companies and associated undertakings, for which approval has been sought in previous general meeting(s), as mentioned in detail in the Annexure-B of statement under Section 134(3) whereas the renewal of limits will be in the nature of loan and/or advance and/or running finance and/or guarantee for a period upto next annual general meeting, unless specifically approved for a longer period, and shall be renewable in next annual general meeting(s) for further period(s) as specified.

S.	Name of Associated Company & Associated	Proposed Fresh Investment		Renewal Requested	
No	Undertakings	_	Loans /	Unutilized	Sanctioned
		Equity	Advances /	Equity	Loan/Advance/
			Guarantee	Portion	Guarantee
		Amou	nt in PKR	Amo	unt in PKR
		(m	illion)	(г	nillion)
1	Aisha Steel Mills Limited	- 3	÷	500	1,000
2	Power Cement Limited	L 12	-	500	1,000
3	Arif Habib Limited	-	×.	500	2,000
4	Fatima Fertilizer		-	1000	-
5	Sapphire Bay Islamic	Ξ.	×.		
	Development REIT			2,536	3,000
6	Gymkhana Apartment	-			
	REIT			1500	1000
7	Signature Residency REIT	-0	-	-	165
8	Globe Residency REIT	-	-	1,499	679
9	Naya Nazimabad	-	÷		
	Apartment REIT			1,000	4,000
10	Park View Apartment REIT	250	-	-	-

or the Site Office at Naya Nazimabad, Manghopir Road, Karachi not later than fourteen days before the date of AGM: i. Notice of his/her intention to offer him/herself for the election in terms of Section 159(3) of the Act in the following categories as per the re-quirements of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the CCG-2019) as amended through SECP SRO 906(I)/2023, dated 07 July 2023:

Sr. No.	Category	Number of Seats
1	Female Director	01
2	Independent Directors	03
3	Other Directors	05

- Consent to act as director under Section 167(1) of the Act on "Appendix to Form-9" as prescribed in the Companies Regulations, 2024 A detailed profile of the candidates along with office address for placement on the Company's website, as required under SECP SRO 1196 (I)/2019, dated 03 October 2019
- iv. Declaration under Section 155 of the Act read with Regulation No.3 of the CCG-2019.
- v. Declaration that he/she is not ineligible to become a Director of the Company in terms of Section 153, 177 or under any provision of the Companies Act. 2017, the CCG-2019, PSX Rule Book and any other applicable law, rules and regulations.
- Declaration of independence in terms of Section 166(2) of the Companies Act, 2017 read with Regulation 6(3) of CCG-2019 (applicable only for person filing consent to act as independent director of the Company).
- vii. Undertaking on non-judicial stamp paper that candidate meets the requirements of Regulation 4(1) (7) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 (applicable only for person filing consent to act as independent director of the Company) viii. Details of other directorship and offices held.
- ix. Copy of valid CNIC (in case of Pakistan national) / Passport (in case of foreign national).
- x. NTN & Folio No./CDC Investors Account No./CDC Sub-Account No (applicable for person filing consent for the first time).

Category	No of Directors to be Elected	No. of available votes for the category	Remarks
Female	1	1*100-100	If only one female contesting the election, then she will be elected unopposed. Otherwise, the member may cast 100 votes available in this category. The member may give all his/her votes to a single candidate or divide them between more than one candidate in this category.
Independent Directors	3	3*100-300	The member may give all his/ her votes to a single candidate or divide them between more than one candidate in this category.
Other Directors	5	5*1000-500	The member may give all his/ her votes to a single candidate or divide them between more than one candidate in this category.

If the number of persons who offer themselves to be elected in a category are not more than the number of directors to be elected in such category, such person will be elected unopposed without the voting process. Online Participation in the Annual General Meeting

In light of relevant guidelines issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide letter no. SMD/SE/2(20)/2021/117 dated December 15, 2021, the shareholders are encouraged to participate in the AGM through electronic facility arranged by the Company Accordingly, the company for ensuring maximum participation of the shareholders has made arrangements to ensure that shareholders can also participate in the AGM proceeding via video link. Hence, those members who desire online participation in the AGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at muhammad.adnan@jcl.com.pk with subject of "Registration for JCL AGM 2024" not less than 48 hours before the time of meeting:

Name of Shareholder	CNIC No	Folio No / CDC Account No	Cell No	Email Address

Video Link to join the AGM will be shared with only those members whose emails, containing all the required and correct particulars are received at above mentioned email address

Notice to Shareholders for provision of CNIC and other details:

Members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company / Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99- B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give Folio Number with the copy of CNIC / NTN details.

 Payment of Cash Dividend through Electronic Mode (Mandatory): As per requirement of Section 242 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory for every listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. Consequently, to receive cash dividends directly into bank account, if any, shareholders having physical shares are requested to fill in 'Electronic Mode Dividend Form' available at Company's website containing prescribed details and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company. In case of book-entry securities, shareholders must get their respective records updated as per the 'Electronic Mode Dividend Form' with their Broker / Participant / CDC account services.

In case of absence / non-receipt of the copy of a valid CNIC and bank account details, the Company would be constraint under Section 243(2)(a of the Companies Act, 2017 read with regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 to withhold the payment of dividends, if any, to such members till provision of prescribed details. 10. Details of Shareholding Proportion

Shareholders are requested that in case of joint account, please share proportionate shareholding in writing as follows with our share registrar within 15 days of this notice for record purpose:

within 15 days of this house is	n record purpose.			
Name of	CNIC No	Folio No / CDC	Cell No	Email Address
Shareholder		Account No		
in the second second second second				

i) E-Voting Procedure

(a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on 17 October 2024

(b) The web address, login details and password will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS and email from web portal of the e-voting service provider.

(c) Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login

(d) E-Voting lines will start from 23 October 2024, 09:00 a.m. and shall close on 25 October 2024 at 05:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently

The members in their discretion may cast vote for any candidate contenting election in each of the above categories. However, it must be noted that the division of votes available to each member for a category shall be in proportion to the number of seats of Directors under such cate

FURTHER RESOLVED THAT

The Chief Executive and/or any two Directors jointly and/or any one Director and/or Chief Financial Officer and Company Secretary jointly by any two, be and are hereby authorized to take and do, and/or cause to be taken or done, any/all necessary actions, deeds `and things which are or may be necessary for giving effect to the aforesaid resolutions and to do all acts, matters, deeds, and things which are necessary, incidental and/or consequential to the investment of the Company's funds as above, as and when required at the time of investment, including but not limited to negotiating and executing any necessary agreements/documents, and any ancillary matters thereto

ANY OTHER BUSINESS

8. To transact any other business with the permission of the chair.

A statement under section 134(3) of the Companies Act 2017 pertaining to agenda items No.5, 6 and 7 can be accessed from the website www.jcl.com.

	By Order of the
Karachi	Board
Dated: 04 October 2024	Muneer Gader
	Company Secretary

NOTES:

- The share transfer books of the Company will remain closed from 18 October 2024 to 26 October 2024 (both days inclusive). Transfer re-ceived in order at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400 (Share Registrar) at the close of the business on Thursday, 17 October 2024, will be considered in time for attending the AGM and entitlement of the Dividend to ordinary shareholders.
- 2 A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
- Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I Reference No. 3 (5-A) Misc / ARO / LES / 96 dated January 26, 2000 3. issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:
- Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original computerized national identity card (CNIC) or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting
- In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution / power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced at the time of meeting
- In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of our registrar not later than 48 hours before the meeting, duly signed stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
- iv. In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners, witnesses and the proxy holder shall be furnished with the proxy form. A proxy must be a member of the Company.
- In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution / power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form
- 4 Shareholders are requested to notify change in their addresses, if any, to our Share Registrar. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Service.
- 5. Updation of Email/Cell Numbers:

To comply with requirement of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, all physical shareholders are requested to provide their email address, mobile number and notify change therein, if any to our Share Registrar for incorporation in our members register. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their email address and mobile number updated with their participant or CDC Investor Accounts Service.

Election of Directors:

The existing term of the Board of Directors of the Company will expire on 25 October 2024. The Board of Directors on 19 September 2024 has fixed the number of Directors at 9 (nine) to be elected in the AGM for the period of three years commencing from 26 October 2024 in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017.

For the election of Directors, any individual, whether a retiring Director or otherwise, who wishes to contest must submit the following required documents addressed to the Company Secretary and delivered either to the Registered Office at Arif Habib Centre, 23 M.T. Khan Road, Karachi

Postal Ballot

- (a) Members may alternatively opt for voting through postal ballot. Ballot Paper shall also be available for download from the website of the Company at www.jcl.com.pk or use the same published in newspapers.
- (b) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Registered Address through post at Arif Habib Centre, 23 M. T. Khan Road, Karachi (Attention of the Company Secretary) or through the registered email address of shareholder at muhammad.adnan@jcl.com.pk with subject of 'Postal Ballot for 'JCL AGM 2024' by Friday, 25 October 2024 before 05:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.

(c) Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding authority.

Note:

In accordance with the Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board of the Company has appointed M/s. Reanda Haroon Zakaria Aamir Salman Rizwan & Co. Chartered Accountants, (a QCR rated audit firm) to act as the Scrutinizer of the Company for the businesses to be transacted in the meeting (Agenda # 5 and Agenda # 7 pertaining Election of Directors and approval for Investments in associates under section 199 of the Companies Act, 2017 respectively), and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

13. Provision of Video Link Facility:

In accordance with Section 134 (1) (b) of the Companies Act, 2017 the Shareholders may participate in the meeting via video-link facil-ity. If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city.

Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website at the given link: https://jcl.com.pk/investors-information/#Video-link-facility-form and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company.

14. Distribution of Annual Report:

The Annual Report of the Company for the year ended 30 June 2024 has been placed on the Company's website at the given weblink http://jcl.com.pk/financial-statements and could also be downloaded from above QR code.

However, if a shareholder, in addition, requests a hard copy of Annual Report, the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request. For convenience of shareholders, a "Standard Request Form for provision of Annual Report" has also been made available on the Company's website www.jcl.com.pk.

15.Deposit of Physical shares in CDC Accounts:

The SECP, through its letter No.CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated 26 March 2021, has advised the listed companies to adhere with the provisions of the Section 72 of the Act, which requires all the exiting companies to replace shares issued by them in physical form with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act 2017 i.e. 30 May 2017. The shareholders having physical shareholding are requested to open CDC sub-account with any of the brokers or investors account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form.

16.Unclaimed Dividend:

Pursuant to Section 244 of the Act, any shares issued, or dividends declared by the Company, which remain unclaimed for a period of three years from the date they became due and payable shall rest with the Federal Government after completion of procedure prescribed under the Act

In this respect, Shareholders, who by any reason, could not claim their previous dividends are advised to contact our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, to collect/enquire about their unclaimed dividend, if any. The details of the dividend declared by the Company which have remained due for more than three years are available on the Company's website www.jcl.com.pk.

17. Form of Proxy is enclosed and uploaded on the Company's website www.jcl.com.pk.

			•	جاوداں نوٹس برائے س			
	<u>یگ</u> : 			یا ناظم آباده منگهو پیر دوذ ، کراچی میں بروز ہفتہ مورخہ 6: ا			می امور
		إ كيوآ رفعال كوڈ ھےڈا دّن لوڈ كى جا ^س تى ہے	لوڈ کردی گئی ہے،مندرجہذیل ویب لنک /http:/	لوشوار ب اور آ ڈیز وں اور ڈائر بیکٹر وں کی رپورٹوں کے چیروی میں ،مالی گوشوار سے کپنی کی دیب سائٹ پراپ /jel.com.pk/financial-statements میٹل کی سفارش پرمیسرز بیسف عادل ، جارٹر ڈاکا ڈینٹ	2 ئۇنىتىرىمال كےسالانەنظرىلى شەدماليانى R.O. 389 تارىخ 2023 كى	ن) کی دفعہ 223 کے مطابق اور 2023/(I)	یٹروں اورڈ ائر کیلڑ یکٹ2017 (ا کی
	ومتعلقہ ڈائر یکٹر کیٹیگری(ماسوائے جناب عالمگیرا	ہ والے ڈائر بکٹرز کے نام درج ذیل میں ، ج (the) کے ریگولیشن 74 میں بیان کیا گیا۔ 5۔ جناب جا	زیکٹرز نے تجویز کیا ہے۔ یہ کے لیے نتخب کرنا کمپنی کے ریٹا ٹرہونے نس) ریگولیشنز ،2019(2019حدا ظافر 4۔ جناب محمدا ظافر)4 یعنی 4روپ فی عام شیئر پرچیها که بورد آن داز 2024 سے شروع ہونے والی 3 (تین) سال کی مدت سم شدہ سے مطابق لمذکہ نیز (کو ڈ آف کار پور یے گوڑ ہیب	رکرنے اورا مے منظور کرنے کے لیے @% ، ے مقرر کردونو (9) ڈائر کیٹرز کو 20 اکتو برما ، SR تاریخ ۵7 جو ان کی 2023 کے ذریعے تر - جناب عبوالصد ح	وختم ہونے والے سال کے لیے حتمی نفذ منافع پرغو 2 کی دفعہ 159 کی ثق کے مطابق بورڈ کی طرف)3 جون 2024 کا پینیزا یکٹ،017
لديما	ی دینے کا کمپنی کے بورڈ آف ڈائر یکٹر زکو بیاضیا	-	ں داران کی منظوری درکار ہو، درج ذیل ^ز ھ	ہزا یکٹ2017 کی دفعہ 207اور 208 کے تحت تہ پار ٹیوں کے ساتھ کی جانے والی ٹرانز یکشنز کی منظور	ساتھان ٹرانزیکشنز کی منظوری دینے جن کی کمپن	نام پذیر مالی سال کے دوران متعلقہ پار ٹیوں کے	
ئىي گى ـ	ا نہا جلاس عام میں حصص داران کے روبر ورکھی جا	ری(اگرضرورت ہوئی) کے لئے الگے سالا		ندې د يوې ساما هن پا سودن درو سام کا کون ب داران کی طرف سے منظور شدہ خيال کی جا کيں گی (201 ¹ کی دفعہ 207اور/ یا 208 <i>2 کے تحت</i> حصص	ڈ کی طرف سے منظور شدہ ٹرانز یکشنر کمپنیزا یکٹ7 سمجھا جائے تو ،ترمیم کے ساتھ یا بغیر درج ذیل خو	مرید قرار پایا که بور کرنااورا گرمناسب
				نڈرٹیکنگو میں سرمایہ کاری)ریگولیشنز، 2017 کے تحت	وضوابط کے ساتھ مشروط ہے۔	کے تحت بیان کے ضمیمہ - A میں بیان کردہ شرائط	فرار پایا که رضام ورسیشن(3)134
- متعلقه کمینیاں اور منسلک انڈر شیکنگز، چن	روں کی تجدید کے لیے دی جاتی ہےاور دی گئی ہے	تجدید ہوگی۔ _فریق کے تحفظ کی مندرجہ ذیل منظور شدہ حا	، نہاجلاس عام میں مزید مدت کے لیے قابل چت قرضوں/ایڈ وانسز/ گارنڈوں/ تیسر _	بنذ انذر نیکنگر میں سرمایہ کاری) ریگولیشز، 2017 کے سالا نہ اجلاس عام تک کی مدت کے لیے، جوا گلے سالا ینڈا نذر نیکنگر میں سرما یہ کاری) ریگولیشز، 2017 کے	س عام میں، غیراستعال شدہ رقم تک،اوراگلی ن199 اوکیپنیز (ایسوی ایٹڈ کمپنیوں یاایسوی ا	ییان کے ضمیمہ=B میں جس کے مقابل گزشتدا جلا ضامندی اور منظور کی پنیز ایکٹ، 2017 کے سیکش	3)134 کے تحت: فزید قرار پایا کہ در
ِ پرطویل مدت کے لیے منظور نہ ہو، اور اگلی 	ے کی مدت کے لیے گارٹنی، جب تک کدخاص طور تحدید کی درخ	ر بامالیات ادر/ یا آگلی سالاً نه جَزل اجلاس تک بس ما به کاری بس ما به کاری	انوعیت میں ہوگی۔اور/ یا پیشگی اور/ یا چل 	صیل سے بتایا گیا ہے، جب کہ حدود کی تجدید قرض ک	حہ(3)134 کے تحت بیان کے ضمیمہ−B میں ^{تف}	ساجلاس میں منظور کی طلب کی گئی تھی ،جیسا کدد ف میں میں مزید مدت کے لیے قابل تجدید ہوگا جیسا کہ	<u> کے لیے گز</u> شتہ جزل
ظورشد وقرض/ پیشگی/ گارنٹی		کر نیچ بر میں قریضے/ پیشکیاں/گارنٹی پے(ملین) میں	ا يکو پڻي	-		ما یسوسی اینڈ کمپنی اینڈ ایسوسی اینڈ انڈ رئیلنگر	
1,000	500 500					ئشائىلى ملزلمىينىڭ درسىنەت لىينىڭ • • ب ب د	ų 2
2,000	500 1000 2,536	-				رف صیب کمیٹڑ طرفر ٹیلائز رکمیٹڈ غائر نے اسلامک ڈو طبیترن REIT	4 قا
3,000 1000 165	2,536 1500		-			غائر بے اسمالا ک ڈو فیچینٹ REIT غانه اپار شنٹ REIT کیچر (Signature) یڈیڈیسیر REIT	3. 6
679 4,000	1,499 1,000		-			لوب ریذیڈینٹ REIT اناظم آبادا پارشنٹ REIT	8 8 9 يا
اردیاجائے، جس میں شامل ہے کیکن محدود	- اور معاملات انجام دینے یا انجام دلوانے کا اختیا	- ی سے ضمن میں ضروری تمام افعال ،اقدامار	250 لومئوژ بنانے اور کمپنی کے فنڈ زکی سرما یہ کار	/ سمینی سکریڑی کوشتر کہ اور/یافر دافر دافر احرار دادیٰداَ میں بہ اختیار دیاجاتا ہے۔	ور/یا کوئی ایک ڈائر یکٹراور چیف فنانٹس آفیسر کیڈ ماہ قالی محاملات کی بحکیل اور زیبے بلڈ ال	رک و بواپار ثمنٹ REIT ب ایگزیکٹوا قیسر اور / یا کوئی دومشتر کہ ڈائر یکٹر زا کوئی ضروری محامدات/دستاویز ات،اوراس ٹیر	زید قرار پایا که چیف
				·		سے کوئی اور امورانجا م دینا۔	ا مور رزشین کی اجازت
	حسب الحكم			سے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ سے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔	کے تحت بیان ویپسا ئٹwww.jcl.com	ر چشتل کپینرا یک 2017 کی دفعہ (3)134 <u>-</u> ب	أنتم مبر6،5اور7
	منیرگدر سمپنی سیکر بیژی					2024.2)،مورخه 04 اکتو
ت تك موصول هو نيوالي موز ون منتقليان	جعرات17 اکتوبر 2024 اختشام کاروبار کے وف	مین شاہراہ فیصل کرا چی 74400 کے پاس	بادُس،B-B،باكSMCHS،B،	لراد میسرزی ڈی تی شیئر رجسٹرار سروسز کمیٹڈ، CDC -	ونوں دن شامل) بندر مینگی ۔ ہمارے شیئر رجنا کے انتحقاق کے تعین کیلئے بروفت مجھی حائیگی	ماتے 18 اکتوبر 2024 تا 26 اکتوبر 2024 (د برنے اوروٹ دینے اور عام شیئر ہولڈرز ڈویڈیڈ	ں: پا کے صص منتقلی کھ جلاس میں شرکت ک
				۔ لیےاور دونٹک کی بابتہ وہی حقوق حاصل ہوں گے جوایک 5)3 مور نہہ 26 جنور کی 2000 میں دی گئی گائیڈ لائن	ی مقرر کر سکتا ہے جسے اجلاس میں شرکت ، بو۔	رووٹ دینے کا اہل رکن کسی دوسر ےفر دکوا پنا پرا	یا س میں ش رِکت اور
			۔ پاکرنا ہو گگے۔	ررٹ پیش کر کے کر ےگااورا پنا فولیو نمبر ہمراہ لائے گا C پایا سپورٹ کی مصدقہ کا لی بھی اجلاس کے وقت پیژ	ئیت کی تصدیق اپنااصل CNIC یا صل پاسپو رارداد/ یادرآف انارنی اورنا مزدہ کے CNIC	یانامزدگان اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شنا رہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر یکٹرز کی ق)ارکان، پراکسیز ؛ i) کار پوریٹ ادار
	يونالا زمى <u>ہ</u> ے۔	انعقاد ہے کم از کم 48 گھنے قبل تک موصول:	یے شیئر رجٹرار کے آفس میں اجلاس کے 	م، تپتے، CNIC نمبرزاورد شخط فارم پر کندہ ہوں ہمار اتھ جع کرائی جائیتگی۔	اوردوافراد کی طرف سے گواہی شدہ جن کے نا یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پرانسی فارم کے س	غرض سے پراکسیز کابا قاعدہ مہر شدہ، دستخط شدہ ورت میں بینیفیش آنرز اور پراکسی کے CNIC	ii)مؤثر ہونے کی iv)فردہونے کی ص
	كرناچا ہے۔	راكا ۇنىش مروس كے ساتھا پنا پية اپ ڈيٹ		، CNIC یا سپورٹ کی مصدقہ کا پی پراکسی فارم کے الیکٹرانک شکل میں اپنے حصص کو برقرارر کھنےوالے ش		خواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں تبدیلی ^ب	نيىر بولدرز سے در
ارر کھنےوالے شیئر ہولڈرز کواپنے ای میل	لل ^ع کریں۔الیکٹرا نک شکل میںاپ ^{ے ص} ص کو برقر	یلی کے بارے میں ہمارے شیئر رجسڑارکومط	ں،موبائل نمبر فراہم کریں اوراس میں تبد	ز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈر لیے رز	بلہ 47 کی تعمیل کے لیے تمام فزیکل شیئر ہولڈر ں کے ساتھاپ ڈیٹ کرنا چاہئے۔	کواپ ڈیٹ کرنا: 1 کی دفعہ 119 اور کینیزر گیولیشنز 2024 کے ضاہ نسبرکواپینے شرکاءیا می ڈی کی انولیٹرا کا ونیٹس سرو	پنیزا یکٹ 2017
							0
				2024 کیپنیزا یک 2017 کی دفعہ 159 کی دفعانہ		د ْ ارْ يَكْثَرز كَلْ موجود دمدت 25 اكتوبر 2024 ك	ائر یکٹرز کاانتخاب تمپنی کے بورڈ آف
۔ آفس میں اے جی ایم کی تاریخ سے چودہ	آفس یا نیاناظم آبا دہ منگھو ہیرروڈ ،کراچی کے سائنہ	ينٹر،23ايم ٹی خان روڈ ،کراچی ميں رجٹر ڈ) کوجع کرانا ہوں گی اور یا تو عارف حبیب ^س	ې،ا بے مندرد بيد مل طلوبيد متاويزات تميني تيريژ کړ وژ آف کاريوريت گورنن) ريگوليشنز ، 2019(101	والاَ دْائر يَكْثر ہو ياكونی اور، جواليكش لُڑنا چاہتا۔	ڈائر کیلرز کی موجودہ مدت201 کو بر 2024 کا ب سے لیےکو کی بھی صحف چیں چاہ دور یٹا کر ہونے SRO 906(1)/202 تتاریخ 07 جدال کی 2034	ائر یکٹرز کا امتخاب تمپنی کے بورڈ آف ایر یکٹرز کے انتخار ن قبل پہنچا ناہوگا:
۔ آفس میں اے جی ایم کی تاریخ سے چودہ	آفس یا نیاناظم آبا دہ منگھو ہیرروڈ ،کراچی کے سائنہ	ينٹر،23ايم ٹی خان روڈ ،کراچی ميں رجٹر ڈ) کوجع کرانا ہوں گی اور یا تو عارف حبیب ^س	ہے،اے مندرجہذیل مطلوبہ دستاویزات کمپنی سیکریٹر کک 	والا ڈائر بکٹر ہویا کو کی اور، جوالیکش لانا چاہتا۔ 2 سے ذریعے تیم شدہ سے مطابق لسکھینیز (/	۔ڈائر یکٹرز کی موجودہ مدت 25 اکتوبر 2024 ک ب سے لیے کوئی بھی شخص، چاہے وہ ریٹائر ہونے	ائر یکٹرز کا امتخاب تمپنی کے بورڈ آف ایر یکٹرز کے انتخار ن قبل پہنچا ناہوگا:
۔ آفس میں اے جی ایم کی تاریخ سے چودہ	آفس یا نیاناظم آبا دہ منگھو ہیرروڈ ،کراچی کے سائنہ	ينٹر،23ايم ٹی خان روڈ ،کراچی ميں رجٹر ڈ) کوجع کرانا ہوں گی اور یا تو عارف حبیب ^س	ہے،ا سے مندر ہوذیل مطلو بد متام برات کیٹی تکریز کر وذا آف کار پوریٹ گورنش) ریگولیشز ، 2019(2019 نشتوں کی تعداد 01 03 05	والاذائر یکٹر جو یا کو کی اور، جوالیشن لانا چاہتا۔ 2 سے در بیچ تر مم شدو کے مطابق المذکونیز () 	دائر کمبرز کی موجود و دعد 2012 تو کر 2024 کا ب کے لیے کو کی بھی تحص ، چا جدود ریلائر ہونے (1)200 SRO یک کی تحصیل کی 200 کی تحکم کی کھی کی کھی کہ کہ کہ کہ کو کی کہ	ابر یکٹرز کا انتخاب کمپنی کے بورڈ آف ابر یکٹرز کے انتخاب ن تھل پہچایا موطان میرشار 1 2 3 3
۔ آفس میں اے جی ایم کی تاریخ سے چودہ	آفس یا نیاناظم آبا دہ منگھو ہیرروڈ ،کراچی کے سائنہ	ينٹر،23ايم ٹی خان روڈ ،کراچی ميں رجٹر ڈ) کوجع کرانا ہوں گی اور یا تو عارف حبیب ^س	ہے،ا سے مندر ہوذیل مطلو بد متام برات کیٹی تکریز کر وذا آف کار پوریٹ گورنش) ریگولیشز ، 2019(2019 نشتوں کی تعداد 01 03 05	والاڈائر کمٹر ہویا کو کی اور، جوالیشن لڑنا چاہتا۔ 2 نے ذریعے تر مہ شدہ سے مطالق اسلڈ میز (۲ 	د انر کیلرز کی موجود دمد حد 20 آنتو بر 2024 کا ب کے لیکو کی بھی تحتین ، چا جدور یلائر ہونے <u>1023 تاریخ کی تحقیقی ، چا جدور یلائر ہونے</u> <u>1024 تاریخ کی دولہ (12 کیلر</u> <u>1025 میں طرشد وا کیک کی دفعہ (1070 1196</u> 109-1196 SRO 1196	ابتر کمترز کا انتخاب تبچن سے بورڈ آف ن تبل بیتھیا ہوگا ن تبل بیتھیا موگا میتر شرک ا ا سے کو کی کی کو کی کی کو ا سے کو کی کو کو کی کو کی ک ا سے کو پار مار کا کو کی کو ا سے کو کو کی کو
۔ آفس میں اے جی ایم کی تاریخ سے چودہ	آفس یا نیاناظم آبا دہ منگھو ہیرروڈ ،کراچی کے سائنہ	ينز،23 ايم ٹی خان روذ بمراچی ميں رجنز ذ يات ڪرطانتي ايک کی دفعہ (3) 159 م) کوتح کرانا ہوں گی ادریا تو مارف حبیب (CCG-20) کے ریڈیکٹن 7 کی خرور ایکٹ کی کا دائر یکٹر ینے کے لئے ناائل	ہے،ا سے مندر ہونہ نیل مطلو بہ رسمانہ پرات کیٹی تیکر بیز کی وؤ آف کار پور یٹ گورنش) ریگولیشز، 2019(2010 من شعوں کی تعداد 03 لیے ایسے سے کا مرکر نے کی رضا مند کی۔ لئے امیر داروں کا تعسیلی پر دفائل اوروفتر کا چہ ہے۔ لگے ماہر اطلاق قانون بو اعدوضوا ہیا کہ کی تکی شق ہے	والاڈائر کیٹر ہویا کو کی اور، جو ایکٹن لڑنا چاہتا۔ 2 نے ذریعیتر شہم شدہ سے مطالق لیڈیٹیز (کا 2 تحقیق افارہ – و کے شیمیہ "پرڈائر کیلڑ کی حیثہ 2 تحقیق افارہ ہے۔ 2 تحقیق اطارہ ہے۔ 2019 دیلی ایس ایکس دول بک ادر کمی مجلی ڈ	د انر کیلز دی موجود مد 20 آنتور 2024 کا ب کے لیکو کی تلح تلقی ، چا جدور ینائر ہونے ان کیلگری کیلگری ان از از از کیلئر از از از کیلئر از از از کیلز از از از از کیلز از از از کیلز از از از از کیلز از از کیلز از از از از کیلز از از از از از کیلز از از از از کیلز از از از از کیلز از از از کیلز از از از از از از کیلز از از از از از کیلز از از از کیلز از از از کیلز از از از از از از از کیلز از از ا	ابزیکترز کا انتخاب کمپنی کے بورڈ آف ابزیکترز کے انتخاب فی تحکیل بیچا بوگا: میرشار 1 1 - کمپنیزر کمولیشنز 1 - ایرک کی دفعہ ۱ - ایرک کی دفعہ - سامان کے دوفعہ
۔ آفس میں اے جی ایم کی تاریخ سے چودہ	تف یا یاناظم آباد بتکصوییر دو ^ت رایج کسائند کسطایق مندرجد و یک بیگریوں میں اختابات ک	ينز،23 ايم ٹی خان روذ برا چی ميں رجز ذ يات ڪرطا بق ا يک کی دفعہ (3) 159 ۔ يک ہے۔ ليح الا کو ہوتا ہے)۔) کوتع کرانا ہوں گی ادریا تو مارف حبیب (CCG-20) کے ریگویشن 7A کی ضرور ایک کی کا دائر یکٹر بننے کے لیے ناائل نے رضا مند کی داخل کر نے دالے گفت کے	ہے،اے مندرجہ ذیل مطلو بہ حتاہ یزات کیٹی تیکہ یز کر وڈ آف کار پوریٹ گورنٹ) ریگولیشز، 2019(2010 منتقوں کی تعداد 01 03 لئے امید داروں کا تفسیلی پر وفائل اوردفتر کا چھ۔	والاڈائر کمٹر ہویا کو کی اور، جو ایکش لڑنا چاہتا۔ 2 نے ذریعے تریم شدہ کہ مطابق لیڈ کو کی خان 2 کے تریع تریم شدہ کہ مطابق لیڈ کو کی طیق 2 کے تحت اغار میں۔ 2 کے طویق (3) کی تحت آزادی کا اعلان تریکروں کا طریقہ کا راور اختاب) ریکو لیشونو	یا از کمبرز کی موجود مدے 1 آنتو بر 2014 کا ب کے لیے کو کی تلحی تلحین میں جدود ریٹا کر جونے ایک تلحی کی تلحی تلحی کی تلحی کی تلحی کی کہ 1023 ایک تلحی کی تلحی کی تحدید از کہ تلکی کی تحد از کہ تلکی کی تحدید کی تلحی کی تحدید کی تلحی کی تحدید کی تلکی کی تحدید کی تلکی تلکی کی تحدید کی تحدید کی تلکی تلکی کی تحدید کی تلکی تلکی کی تحدید کی تحدی تحدید تحدید کی تحدید تحدید تحدید کی تحدی تحدید تحدید کی تحدید تحدید تحدید کی تحدید تحدید تحدید کی تحدید تحدید تحدید تحدید کی تح تحدید تحدید کی ت	ابتر یکوز کا انتخاب تمینی کے بورڈ آف ابتر یک تی بینی تریز کا انتخاب میرشکر 1 1 - کمینی ریگویشفتر 1 - سیاعالان که دفعہ 1 - سیاعالان که دومتر 1 - سیاعالان که دومتر دائر تکسف 1 - دیگر دائر تکسف
بة فس مين ات بقي المراكبة من يودو. للتوفير فوش كرف كراراد كالولس:	تف یا یاناظم آبادہ تکھوییرردڈ، کراپتی کسائند کے مطابق سندرجہذیل کیلگریوں میں انتخابات کے۔ نے والے شخص کے لئے لاکوہ وہتا ہے)۔	ینز،23 ایم ٹی خان روڈ براچی میں رجنز ڈا یات سے مطابق ایک کی دفعہ (3) (159 یہ سے - لیے لاگوہوتا ہے)۔ پر کا م کرنے کے لیے رضا مند کی داخل کر _	کو تح کرانا ہوں گی ادریا قومارف حبیب (CCG-20) کے ریڈییشن 7 A کی ضرور ایک کی کا ڈائر یکٹر بنے سے لئے ناانل درصاحد کی داخل کرنے والے تحکص کے بے (صرف کہنی کے زادڈ انریکٹر سے طور	ہا، ے مندر ہونہ نیل مطلوبہ دستاہ پرات کیٹی تیکر بیڑی ووڈ آف کار پوریٹ کورنش) ریگولشتور، 2019(2010 منتشقوں کی تعداد 03 05 لئے امیدواروں کا تنشیل پر وفاکل اوروفتر کا چھ۔ لیکر قابل اطلاق تا نوں، قو اعدد شواہید کی کی تحق تق ا کیٹی کے آزاد ڈائر کیٹر کے طور پکا م کرنے کے لئے 2018 کے ریگولیش (7)(1) کی شرائط کو پر کا کرتا۔	والاڈائر کیٹر ہویا کو کی اور، جو ایکٹن لڑنا چاہتا۔ 2 نے ذریع تر شہر شد و کہ مطابق لیڈ کو لیڈ پڑر (2 کے تر میں تر شہر مراح کے شعید "پرڈ ائر کیڈ کی میڈ 2 کے تحت اغار میں۔ 2 کے شروں کا طریقہ کا رواب تک اور کی بجی در ٹر کیٹروں کا طریقہ کا رواب تک) رگولیشنزو یو رف (نیو کل شہر کی کی مورت میں)۔	ب ابز کمبرز کی موجود مدے 17 تور 2024 کی ب کے لیے کو کی تلحی تلحین میں جدور ینائر ہونے نیس کی کمبر کی تلحیق کی تلحیق کی تلحیق کی کمبر کل کمبیر کی کمبر کی کمبر کا کمبر کی کمبر کمبر کمبر کل کمبیر کی کمبر ما یک کی دفتہ (17:11 کی کمبر کمبر کمبر کمبر کمبر کمبر کمبر کمبر	ابز کیفرز کا افتح ب تبغی کے بروز آن ابز کیفرز کے انتخا مرشار کی تحک کے 22 کی تحک کے 22 کی تحک کے 22 ابنا کی تحک کی دفعہ ابنا کی تحک کی تحک کی دفعہ ابنا کی تحک کی دفعہ ابنا کی تحک کی دفعہ ابنا کی تحک کی دفعہ ابنا کی تحک کی تحک کی تحک کی تحک کی دفعہ ابنا کی تحک تحک کی تحک کی تحک تحک تحک کی تحک تحک کی تحک کی تحک کی تحک کی تحک کی تحک تحک تحک تحک تحک کی تحک
بة فس ميں اے تى ايم كى تاريخ سے پرودو ليے نورکو بیش کرنے کے اراد سے کا لو تس: فکر كى كما بلاد مریا چا دوٹ ڈال كے میں:	تف یا یانانالم آیاد بتکھوی روڈ، کرایتی کے سائند کے مطابق سدرجہ ذیل کیکٹریوں میں انتخابات کے۔ نے والے شخص کے لئے لاگوہوتا ہے)۔ ، ہوگی رکن مندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق ہرکٹ	ینز،23 ایم ٹی خان روڈ براچی میں رجنز ڈا یات سے سطا بق ایک کی دفعہ (3) (159 لیے لا گوہوتا ہے)۔ پر کام کرنے کے لیے رضا مندی داخل کر۔ پر کام تر کی نشتوں کی قعداد کے تا سب ہے ریچار کس	کونتح کرانا ہوں گی اور یاقو مارف حبیب 2012ء کی تصور کی طریق ۲۵ کی خرور 2013ء کی کاڈائر یکٹر بنے کے لئے ناانا نے 2013ء کی کاڈائر یکٹر نے والے شخص کے 2014ء کی داخل کر نے والے شخص کے 2013ء کی طریق 2014ء کی تقسیم اس کینگر کی کے قداد	ب اسے مندرجہ ذیل مطلوبہ دستاہ پرات کیٹی تیکر بیڑر ووڈ آف کار پور بیٹ کورنس) ریگولیشتر ، 2019(2010 نشستوں کی تعداد 03 05 لیے اسپرواروں کا تعسیل پروفائل اور دفتر کا چہ ۔ لیک تی اور دار کیٹر سے طور پر کا مرکر نے کے لیے 2018 کے ریگویش (۲)(1) کی شرائط کو پر اکرتا۔ درنے دوالے شخص کے لیے کا کو ہوتا ہے)۔	والا ڈائر کیٹر ہو یا کوئی اور، جو ایکوئی لڑنا چاہتا۔ 2 نے ذریعے تر مہ شد و سے مطابق لے ملکھ نیز (۲ 2 سے تر میں شد و سے مطابق لے ملکھ نیز (۲ 2 سے تحت اغار م و صحیح سائنے پر کمنے کے میں 2 سے تر میٹر وی کا طریقہ کا دور استان کے رکھ لیے تر 3 سیٹر وی کا طریقہ کروی کی صورت میں)۔ کچھ کر وی کے لیے میتوں دیکھ مواد ایک میں کے میں یہ تو م	ب ابز کمبرز کی موجود مد حد 20 آخور 2024 کا ب سے لیے کو کی تلحی تلحین میں جدور ینائر ہونے ب سے کی کو کی تلحی تلحین میں جدور ینائر ہونے کلیگری کلیگر کلیگری کلیگ کلیگری کلیگ کلی کلی کلیگ کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی	ابز یکوز کا انتخاب کمپنی کے برز دانتخاب ن قبل بیتی جارت کا میرشار 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
بة فس ميں اے تى ايم كى تاريخ سے پرودو ليے نورکو بیش کرنے کے اراد سے کا لو تس: فکر كى كما بلاد مریا چا دوٹ ڈال كے میں:	تف یا یانانالم آیاد بتکھوی روڈ، کرایتی کے سائند کے مطابق سدرجہ ذیل کیکٹریوں میں انتخابات کے۔ نے والے شخص کے لئے لاگوہوتا ہے)۔ ، ہوگی رکن مندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق ہرکٹ	ینز،23 ایم فی خان روذ برا چی میں رجز ڈ یات کے مطابق ا کیٹ کی دفعہ (3) (159 لیے لا کو ہوتا ہے)۔ پر کیٹر ذکی نشتوں کی تعداد کے تنا سب سے ریمگر ذکی نشتوں کی تعداد کے تنا سب سے) کیگر می میں دستیا ب 100 دون ڈ ال سکتا	یکویتح کرانا ہوں گی اور یاقو مارف حبیب) کے ری کر ایہ ہوں گی اور یاقو مارف حبیب) کے ری کہ اور کی کر خوالے میں کہ اور کی مردور) کے روالے میں کہ اور اور ایر کی کر کے والہ اور ایر کی کر کے مالا) ہے وولوں کی تشیم اس کیلگر کی کے تحت ڈا ا انتی ہو وہا کے گی یعمورت و مگر رکن اس	ہا، ے مندر ہونہ نیل مطلوبہ دستاہ پرات کیٹی تیکر بیڑی ووڈ آف کار پوریٹ کورنش) ریگولشتور، 2019(2010 منتشقوں کی تعداد 03 05 لئے امیدواروں کا تنشیل پر وفاکل اوروفتر کا چھ۔ لیکر قابل اطلاق تا نوں، قو اعدد شواہید کی کی تحق تق ا کیٹی کے آزاد ڈائر کیٹر کے طور پکا م کرنے کے لئے 2018 کے ریگولیش (7)(1) کی شرائط کو پر کا کرتا۔	والا ڈائر کیٹر ہو یا کوئی اور، جو ایکوئی لڑنا چاہتا۔ 2 نے ذریعے تر مہ شد و سے مطابق لے ملکھ نیز (۲ 2 سے تر میں شد و سے مطابق لے ملکھ نیز (۲ 2 سے تحت اغار م و صحیح سائنے پر کمنے کے میں 2 سے تر میٹر وی کا طریقہ کا دور استان کے رکھ لیے تر 3 سیٹر وی کا طریقہ کروی کی صورت میں)۔ کچھ کر وی کے لیے میتوں دیکھ مواد ایک میں کے میں یہ تو م	ب ابز کمبرز کی موجود مد حد 20 آخور 2024 کا ب سے لیے کو کی تلحی تلحین میں جدور ینائر ہونے ب سے کی کو کی تلحی تلحین میں جدور ینائر ہونے کلیگری کلیگر کلیگری کلیگ کلیگری کلیگ کلی کلی کلیگ کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی	ابز کیلز زکارتخاب کمپنی کے برز آف ابز کیلز رکارتخا فیل جنیا مدکن میل کیلز المیل کی دفتہ میل کیلز المیل کی دفتہ میل کی دفتہ میل کی دفتہ میل کی دفتہ میل کی دفتہ میل کی دفتہ کی دفتہ میل کی دفتہ میل کی
بة فس ميں اے تى ايم كى تاريخ سے پرودو ليے نورکو بیش کرنے کے اراد سے کا لو تس: فکر كى كما بلاد مریا چا دوٹ ڈال كے میں:	تف یا یانانالم آیاد بتکھوی روڈ، کرایتی کے سائند کے مطابق سدرجہ ذیل کیکٹریوں میں انتخابات کے۔ نے والے شخص کے لئے لاگوہوتا ہے)۔ ، ہوگی رکن مندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق ہرکٹ	ینز، 23 ایم فی خان روذ برا چی میں رجز ذ بیات سے سطا بق ا کی من کی دفعہ (3) (159 لیے الا کو ہوتا ہے)۔ پر کا مرکز کی نشتوں کی تعداد سے تنا سب سے ایو کی میں دستایا ب 100 دون ڈال سکتا اروں سے در میان تقسیم کر سکتا ہے۔ اروں سے در میان تقسیم کر سکتا ہے۔	یکویتح کرانا ہوں گی اور یا قومارف حبیب کویتح کرانا ہوں گی اور یا قومارف حبیب کویت کینی کا ڈائر یکٹر ینے کے لئے ناائل نے کے اخت ایک داخل کر نے والے گفت کے جار سرف کینی کے آزادڈ انر یکٹر کے طور تین اس کیکٹری شامی ایک جن یا دوامیدو تین اس کیکٹری شامی ایک جن یا دوامیدو	جا اے مندر جدی یل مطلو بد حتاہ پر ات کیٹی تیکر بیڑ وذآن کار پور یٹ کردنس) ریگولیشتر ، 2019 (2019 نشتوں کی تعداد 01 03 05 14 میرواروں کا تفسیل پرونا کل اور دفتر کا چد۔ لیک سیرواروں کا تفسیل پرونا کل اور دفتر کا چد۔ کیگر تا کل اطلاق تا نون بقد حدوث وابلا کی تحراط کو بور اکرتا۔ رف والے شخص کے لیے لا کو ہوتا ہے)۔ رف والے شخص کے لیے لا کو ہوتا ہے)۔ اگر صرف ایک خاتوان ایکشن لاقی ہے تو دوبلا متا کیڈ سے زیا دواسیدواروں کے درمیاں تقسیم کر مک ہے۔	والا ڈائر کیٹر ہو یا کوئی اور جو ایکش لڑنا جا ہتا ہے 2 کے ذریعے تریم شد و کے مطابق لیڈ کا جا بتا ہے 2 کے تحت "فارم - 9 کے ضمیر " پرڈائر کیٹر کی حق 2 کے تحت "فارم - 9 کے ضمیر " پرڈائر کیٹر کی حق 2 کے تحت "فارم - 9 کے ضمیر " پرڈائر کیٹر کی حق 2 کے تحت "فارم - 9 کے ضمیر " پرڈائر کیٹر کی حق 2 کے تحت "فارم - 9 کے شیر ایک کی اور کی محک و تر کیٹروں کا طریقہ کا داور احتا ب) ر گولیشز ، 2 کیٹروں کا طریقہ کا داور احتا ب) ر گولیشز ، 2 کیٹروں کا طریقہ کا داور احتا ب) ر گولیشز ، 2 کیٹروں کا طریقہ کی صورت میں) ۔ 2 کیٹروں کے لیے دستا ہے ، دیٹو 2 کیٹروں کے لیے دستا ہے ، دولوں کی قصداد 1 * 100 = 100 3 * 100 = 300	ب ایز بگراری موجود مد حد 20 آختر 24 20 2) ب س کے لیو کو تی تحفی ، چا جد و رائتر بو نے این کو تحقی میں جد و مد ینائر ہو نے کی تحکر میں این کو تحقی ہے تحفی این کو تحف (17، 11 این کو تحق میں کو تک - 100 کے رکم لیڈ الم کر چن میں کو تک - 100 کے رکم لیڈ الم کر چن میں کو تک - 100 کے رکم لیڈ الم کی چن میں کو تک - 100 کے رکم لیڈ الم کی چن میں کو تک - 100 کے رکم لیڈ الم کی چن میں کو تک - 100 کے رکم لیڈ الم کی چن میں کو تک - 100 کے رکم لیڈ الم کی چن میں کو تک - 100 کے رکم لیڈ الم کی چن میں کو تک - 100 کے رکم لیڈ الم کی چن میں کو تک - 100 کے رکم لیڈ الم کی چن میں کہ - 100 کی تحف ال الم کی جن میں کو تک - 100 کی تحف الم کو تک کو تک - 100 کے رکم لیڈ کی جنوب کے الم خود کو چن کر کی تحف الے الم الم الم کو تک - 100 کی خود کی کو تک - 100 کی کو کو تک - 100 کی کو کو تک - 100 کی کو تک - 100 کی کو کو تک - 100 کی کو کو تک - 100 کی کو تک - 100 کی کو کو کو تک - 100 کی کو کو - 100 کی کو	ابز یکوز کا اتلا ب کپنی کے برز دانلا ب ابز یکوز کا اتلا ب فیرش کی بینیا برالا میرش کی بینیز ریکو یستر میران ایک دفتر میران بینی موالی می میران بینی موالی می میران بینی موالی می تون تون تون کوی میگری می
بة فس شراب برایاد مرکا ماریخ بر پرود. لیز خور کوچش کرنے کراراد سکا نوش: فکری کی بذیار پرایادون ڈال کتے ہیں: سکتا ہے یا تین اس کوچکری میں ایک	تف یا یانا تکم آباد بتکصوری روز ،کرایتی کسائند که طابق سد رجد ذیل کنگر یون شن انتخابات کے فیوا _ فیشش کے لئے لاکو ہوتا ہے)۔ فیول _ رکن مند رجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق ہرکنا ہے _ رکن اپنے قیام ووٹ کسی ایک امید وار کو د	ینز، 23 ایم فی خان روذ برا چی میں رجز ذ بیات کے مطابق ا کیٹ کی دفعہ (3) (159 لیے الا کو ہوتا ہے)۔ پر کا مرکز نے سے لیے رضا مندی داخل کر۔ پر کا مرکز کی نشتوں کی تعداد کے تنا سب سے اروں کے در میان تقسیم کر سکتا ہے۔ اروں کے در میان تقسیم کر سکتا ہے۔ کا ہے ہیں دی پر ایس کے در ایس کا مرکز ہے۔ کا د) کوتع کرانا ہوں گی اور یا تو مارف حبیب کوتع کرانا ہوں گی اور یا تو مارف حبیب کوتی کو ایک کہ از کم یفنے کے لئے الائے کے ایک مال کی ایک کہ ایک کو ایک کو مالائے جار سرف کو تی تشہر اس کیلگر می می کو مار میدو تین اس کیلگر می میں ایک نے زیاد دامیدو نے شکل کے بغیر بلا مقابلہ تقتی کیا جائے کے را 2012 کی رو قنی شمن ، کوتی کے زیاد المیدو	جا الے مندر دوی یل مطلو بد حتا و برات کی تی تیز یز کی وذا آف ار پور یٹ کو نیس) ریگولیشو ، 2019 (2019 منتشقوں کی تعداد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	والا ڈائر کیٹر ہو یا کوئی اور جو ایکوش لڑنا جا ہتا ہے 2 نے ذریعے تر مہ شد و بے مطابق لیڈ کا جا بتا ہے 2 کے تر سیع تر مہ شد و بے مطابق لیڈ کہ خوب 2 کے تحت افار مہ و کے ضمیر " پرڈائر کیٹر کی میڈ 2 کے تحت اخار ہے۔ 1 کے تحت اخار ہے۔ 2 کے تحت اخار ہے کہ ایر کی اور کی محک اور کی محک و 2 کے تحت اخار ہے کہ ایر دل بک میں اور کی محک و تر کیٹروں کا طریقہ کر کی صورت میں)۔ تر کیٹروں کا طریقہ کر کی صورت میں)۔ تر کیٹروں کا طریقہ کا داور اختاب) ریگو لیشتر تر کیٹروں کا طریقہ کی کہ صورت میں)۔ تر کیٹروں کا تحد اور کی محد اور کی اعلان 1 * 100 - 100 3 * 1000 - 500 کی تحداد اس کیٹر کہ مڑ جو نے والے لائا کی تحداد اس کیٹر کا مڑ برو نے مراسا نیبر 7	ب ایز کیفرونی موجود مد 20 آختو بر 2024 کی ب سے لیکوئی تلی تحض ، چا جده در 201 تا بر 2024 کا 2023 تا بری تحض ، چا جده در یا کر جو نے کیگری کیگری 107(1) میں 2024 تا بری کم 2024 کی بی میں 2025 تا بری کم 2024 کی بی میں 2025 تا بری کم 2024 کی بی تحسین 2025 تا بری کم 2025 کی بی تحسین 2025 تا بری کم 2026 کی بی تحسین 2025 تا بری کم 2027 کی بی تحسین 2025 تا بری کم 2027 کی بی تحسین 2025 تا بی کم 2027 کی بی تحسین 2025 تو بری کی کر کی 2027 کی بی تحسین 2025 تا بی کم 2027 کی بی کم بی کر کی می کر بی کہ کہ بی کہ بی کہ کہ بی کہ کہ بی کہ کہ کہ کہ کہ بی کہ کہ کہ کہ بی کہ بی کہ کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ	ابزیکترز کا انتخاب کمپنی کے برز دانتی کے کمپنی کے برز آف ابزیکترز کے انتخاب میں تیزیر کی دفتہ ابنا کے میں میں انتخاب میں
باتن میں اے تی ایم کی تاریخ سے چودو لیے خورکوچیش کرنے کے اور سے کا نوش: محکما ہے یا ہیں اس کی بھری میں ایک یہ تی ہے۔	تف یا یا تا هم آور تلکھ دیور دور کرمایتی کے سائند کہ حطالق سند رجد ذیل کنگر یوں شرا انتخابات کے۔ نے والے شخص کے لئے لاکو ہوتا ہے)۔ بیولی ۔ رکن مند رجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق ہرگنا ہے۔ رکن اپنے قیام ووٹ کی ایک امید وار کو د۔	ینز، 23 ایم فی خان روذ برا چی میں رجز ذ یات سے سطا بق ا کی نے کی دفعہ (3) (159 لیے لا کو ہوتا ہے)۔ پر کا مرکز نے سے لیے رضا مندی داخل کر۔ <u>کی مرکز کی نشتوں کی</u> تعداد <u>س</u> تا س <u>ب</u> <u>کی مرکز کی نشتوں کی تعداد سے تنا سب سے</u> <u>کی مرکز کی نشتوں کی تعداد کی تنا سب سے</u> <u>کی مرکز کی نشتوں کی تعداد کی تنا سب سے</u> <u>کی مرکز کی تشتو</u> کی مرکز سے مرکز کی میں با ایکٹر وی سیولت کے ذریعے AGM میر) کوتع کرانا ہوں گی اور یا تو مارف حبیب کوتع کرانا ہوں گی اور یا تو مارف حبیب کوتی کو اور کی تشریف کے لئے ناانل کے تب ایک کو اور ایک تشریف کے لئے الائے جار سرف تو میں کی تاراد ڈائر یکر کے طور تین اس کیگری شامی کے تاراد ڈائر یکر کے طور تین اس کیگری شامی کے تاراد ڈائر یکر کے طور تو تو مار کیگری شامی کے تاراد ڈائر یکر رام سرو تو تاریک کی روفن میں کوتی کے زیاد دام میدو کے تک کے تین با متا با یک نے زیاد دام میدو کے تک کے تین با متا با یک نے زیاد دام میدو کے تاک کی تو با داخی میں میں کوتی کے زیاد ا میدو کی ایک کی کارد داخی میں صور کی تک روا تا تا	جا اے مندر جد بل مطلو بد حتا و برات کیٹی تیکر بیڑ وذا آف ار پور یٹ کورنس) ریگولیشو ، 2019 (2019 منتشقوں کی تعداد 01 03 05 اگر میرواروں کا تفسیل پرونا کا اور دفتر کا چد۔ لیے اسیرواروں کا تفسیل پرونا کا اور دفتر کا چد۔ کیڈی کا اطلاق قانوں بقا مادر دفتر کا چد کر لئے کہ کیٹی کے آوادا ار کیٹر سطور پر کا مرکز نے کے لئے رفتا ہے اگر میں کہ کے لگا اگر وہ تا ہے)۔ اگر صرف ایک خاتون ایکٹن لاقی ہے قہ دو دبلا مقالد رکن اینے قتام وون ایک امیروارکوں سے کا کے ایک زیکٹرز کی تعداد سے زیادہ میں ایک وادی تی	والاذائر کمتر ہو یا کو کی اور جو ایک قرار نا چاہتا 2 نے ذریعے تر مہ شد و یے مطابق لیز الدکھینز (۲ 2 نے تر الع تر مہ میں مطابق لیڈ کی حق 2 نے تر الع تر میں اسل میں کہ کہ میں	ب ایز کمبر زی موجود مد 20 آختو بر 2024 کا ب سے لیکو کی تلی تحض ، چا جده در یا تر بر 2024 ب سے لیکو کی تلی تحض ، چا جده در یا تر بو نے کلیگری کلیگری ان تر کمبر کا تحف ایک کار دند (17 آراز انریکز کمبر کار کی دند (17 آراز تر کمبر اند کار اند کار کار اندری کی تحاوی کی تحوی اند کر کار کار تحف ایک کار مند سے مالی تک تر اند کار کار کار کار کار کار می تحوی اند تحف بو نے والے والز کار کار تحف اند تحف بو تی والے والز کار کار تحف اند تحف کا تحوی کار تحف ایک کار کار تحف اندیکر تحف کا تحویک می ترک کار تحف ایک کار اند تحف کار کار کار کار کار تحف اند تحف بو تی والے والز کار	ابزیکترز کا انتخاب کمپنی کے برز دانتی کے برز دانتی ن تحل یک پیلی ارز دانتی ن تحل یک پیلی ارز کا بیکتر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
باتون میں اے تی ایم کی تاریخ سے چودو لیے خورکو چی کر این سے تاریخ محکما ہے یا ہوں ایا دوت ڈال کے تیں : سیم سے باتیں اس کی تکری میں ایک باتی ہے۔ سیس مسلوم سی ایک میں ایک میں ایک	تف یا یا تا هم آور تلکھ دیور دور کرمایتی کے سائند کہ حطالق سند رجد ذیل کنگر یوں شرا انتخابات کے۔ نے والے شخص کے لئے لاکو ہوتا ہے)۔ بیولی ۔ رکن مند رجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق ہرگنا ہے۔ رکن اپنے قیام ووٹ کی ایک امید وار کو د۔	ینز، 23 ایم فی خان روذ برا چی میں رجز ذ یات سے سطا بق ا کی نے کی دفعہ (3) (159 لیے لا کو ہوتا ہے)۔ پر کا مرکز نے سے لیے رضا مندی داخل کر۔ <u>کی مرکز کی نشتوں کی</u> تعداد <u>س</u> تا س <u>ب</u> <u>کی مرکز کی نشتوں کی تعداد سے تنا سب سے</u> <u>کی مرکز کی نشتوں کی تعداد کی تنا سب سے</u> <u>کی مرکز کی نشتوں کی تعداد کی تنا سب سے</u> <u>کی مرکز کی تشتو</u> کی مرکز سے مرکز کی میں با ایکٹر وی سیولت کے ذریعے AGM میر	یکویتح کرا تا ہول گی اور یا تو مار نے حبیب کویتح کرا تا ہول گی اور یا تو مار نے میں کہ مزور کے تقد تکوی کا ڈائر کیفر ینے کے لئے ناانل ^ن ے کے مار ماحد کو داخل کر نے والے گفت کے جار صرف کیفن تقسیم اس کیفکر کی تحقت ڈائ تقسیم اس کیفکر کی تقسیم اس کیفکر کی تحقت ڈائ تقسیم اس کیفکر کی تقسیم اس کیفکر کی تحقت ڈائ تعلیم اس کیفکر کی تقسیم اس کیفکر کی تحقت ڈائ تعلیم اس کیفکر کی تقسیم اس کیفکر کی تحقت ڈائ تعلیم کی کو تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے میں تعلیم کے مور کی تر مراد آیک کا کو تو تا میں اس کے تیز انتخاب با جات کی تر مراد آیک کا کو تا میں تعلیم کی تا میں دو اسمیدو کا تو شد نیم ر	جا المستعند بردید و یل مطلو بد حتاو برات کیتی تحل یز کر وذآن کار پوریٹ کورنش) ریگولشتور (2010 (1911 منتشقوں کی تعداد منتشقوں کی تعداد منتر کا باشامی کا تعدید منتر کا منتشیل پروفاکل اور دفتر کا چند۔ منتر کا طلاق قانون قد اعد و ضوا بیا کی کی گئی تیت کی تا کما اطلاق قانون قدام دختر کا چند کی تک کر کی تحیی کی تحکی کے لاگو ہوتا ہے)۔ منا کے ایل چانا چانوں ایکٹر کا لاکو ہوتا کے کہ رکن کو میت منتر کا چانا چانوں آگا تو پر کا مرکز کے کے لیے منتر کا چانا چانوں آگا تو پر کا مرکز کی کہ تک منتر کا چانا چانوں آگا تو پر کا مرکز کی کہ تک مرکز کا تواد اور کی کہ مرکز کی کہ رکن کہ مرکز کی کہ تک مرکز کا تعداد دی او دوش کے امید وارکود سے مکانے کی از کان نے تیل دوران کے تک کے ایک کہ مرکز کی دودتا کے مرکز کی دودتا کے مرکز کی کہ دوتا کے مرکز کی دودتا کے دودتا کے دودتا کے دودتا کی دودتا کی دودتا کی دودتا کے مرکز کی کی دودتا کے مرکز کی دودتا کے مرکز کی کی کی دودتا کے مرکز کی کی دودتا کے مرکز کی کی دودتا کے دو دو کی مرکز کی کی دودتا کے مرکز کی دودتا کے مرکز کی دودتا کے مرکز کی دودتا کی دودتا کے دودتا کے مرکز کی مرکز کی دودتا کے مرکز کی دودتا کے دودتا کی	والا ڈائر کمٹر ہو یا کو کی اور جو ایک شن لڑنا جا چاہتا۔ 2 نے ذریعے تریم شدہ بے معالی تو الدکھ نیز (۲ 2 نے تربیع تریم شدہ بے معالیتو الدکھ نیز (۲ 2 نے تربیع تی میں اسی بی رکھنے کے 2 نے تربیع کی ایر ایس ایس رول بی اور کمی محقود 3 نے ترکی کی ایس ایس رول بی اور کمی محقود کی محقود تر کمٹروں کا طریقہ کر کی صورت میں) ۔ تر کمٹروں کا طریقہ کر کی صورت میں) ۔ 2 نیکٹروں کا طریقہ کی کہ صورت میں) ۔ 3 نیکٹروں کا طریقہ کی کہ صورت میں) ۔ 3 نیکٹروں کا طریقہ کی کہ صورت میں) ۔ 3 نیکٹروں کا طریقہ کی کہ صورت میں) ۔ 3 نیکٹروں کا طریقہ ہو نے والے ڈائر 3 نیکٹروں کی میں تحقیب ہو نے والے ڈائر 3 نیک کے لیے ایں ایک کو تی میں تحقیب ہو نے والے ڈائر 3 نیک کے لیے ایں ایک کو تو تی والے ڈائر کو ان کی تعداد 3 نیک کے لیے ایں ایک کو تو تی ایک کر اعظام کی کہ کہ دور میں ڈیل کو ان 3 نیک کہ کر دو معالیت کی جاتی ہے کہ دور درین ڈیل کو ان 3 نیک کے لیکٹر کہ کہ تحقیب ہو نے والے ڈائر کہ کہ کہ دور میں ڈیل کو ان	ب کے لیے کوئی تھی تحسن ہے دو اکتو بر 2024 کو ب کے لیے کوئی تھی تحسن ، چا ہے دور بنائر ہونے ایس کے لیے کوئی تھی تحسن ، چا ہے دور بنائر ہونے کیلگری ایس کیل کے تعلق کو تحسن کی تحسن الرکھ المراب کے تحسن کی تحسن کی تحسن الرکھ کر المراب کیل کے تحسن کی تحسن کی تحسن کی تحسن کے تحسن کی تحسن کی تحسن کی تحسن کی تحسن کی تحسن کے ت	ابز یکوز کا اتلا ب کمپنی کے برز کا اتلا ب کمپنی کے برز آلا ابز یکوز کے التلا میں کے ایک بی بی بی بار میں کے محکوم کی دفتہ میں کے بی
با قس میں اے تی ایم کی تاریخ سے چورو لیے تو کو چی کر نے سے اور ای کتے میں: میں ایک بیاد ہوا چاوو میں ڈال کتے میں: ایک ہے۔ ایک ہے۔	ہ تف یا یا تا کم آور تلکھ دیور دو اگر ایلی کے سائند کہ حطالق مندرجہ ذیل کیلگر یوں میں انتخابات کے۔ نے والے شخص کے لیے لاگو ہوتا ہے)۔ نے رکن اپنے قام دوٹ کی ایک امید دارکو د۔ ای شیل ایکر لیس d.adnan (Gjcl.com.pk وارک کی ج ای شیل ایکر لیس d.adnan (Jcl.com.pk وارک کی ج	ینز، 23 ایم فی خان روذ برا چی میں رجز وز بیات کے سطا بق ا کی من کی دفعہ (3) (159 تے لیے الا کو ہوتا ہے)۔ پر کا مرکز نے کے لیے رضا معد کی داخل کر۔ ریمار کی ریمار کی میں وستیاب 100 دون ڈال سکتا اروں کے در میان تشییم کر سکتا ہے۔ اروں کے در میان تشییم کر سکتا ہے۔ کی سیکھر دی سیادت کے ذریع AGM میر جز بیش برائے 2024 AGM میر مویا کی نیم	یکوی کراہا ہول گی اور یا تو مار نے سے ب کوی کر اہوں گی اور یا تو مار نے سے ب کے تق می کا ڈائر کیشر ینے کے لئے االا ^ن کے اعداد مدی داخل کر نے والے طفس کے جار صرف کی تقسیم اس کینگر کی تحق ڈائ تقسیم ہوجا نے گی ۔ یصورت دیگر ، کرک الر تقسیم ہوجا نے گی ۔ یصورت دیگر ، کرک الر تشک اس کینگر کی شمالیک ے نے وادوامیدو نیک اس کینگر کی شمالیک ے نے وادامیدو لی تے مرادا کی کی کی کی کی جس کا علوان " کا وزین نیم ر	جا المستعند مدید قد بی مطلوبه دستا و برات کیتی تیک بیر بیری وذا آف کار بیر بیٹ کورنش) ریگولیشور (2010 (1911 منتشقوں کی قعداد منتشقوں کی تعداد منتقد میں کی تعداد کر استان مدی ۔ کی تاکم اطلاق قانون قد اعد و قعوا بیا کی کی گی گی تی تی کی تاکم اطلاق قانون قد اعد و قعوا بیا کی کی گی تی تی تی کی تاکم اطلاق قانون قد اعد و قعوا بیا کی کی گی تی تی تی کی تاکم اطلاق قانون آگر ہوتا ہے) ۔ ر نے والے طلاق قانون آگر ہوتا ہے) ۔ اگر صرف ایک خاتون آگر ہوتا ہے) ۔ اگر صرف ایک خاتون آگر ہوتا ہے) ۔ ر کن الے قانون آگر ہوتا ہے) ۔ اگر صرف ایک خاتون آگر ہوتا ہے کی کی کو و بیا تاکم زیکی اعداد دوریا و میں کی دو دیکا متا یا المات کے میں کشیر ہوادروں کے دولوں اطراف کی کار آ مکا المات کے ایک کی دولوں اطراف کی کار آ مکا المات کے ایک کی دولوں اطراف کی کار آ مکا میں کو انگ مذکور وای میں ایڈر ایم کی میں ۔	والا ڈائر کمٹر ہو یا کو کی اور جو ایک شن لڑنا جا چاہتا۔ 2 نے ذریعے تریم شدہ بے معالی تو الدکھ تیز (۲ 2 نے دریعے تریم شدہ بے معالیت الدکھ تیز (۲ 2 نے تریم الدی تی مراحل میں الدی کا حلومی میں 2 نے تریم الدی تی الدی کا حلومی میں تریم دو البی کی رول بجی ادر کمی مجاد دادی کا اطلان 2 نیم دول تو تکوی الدی کا حلومی ہے ہونے دادی کا اطلان 2 نیم دول تو تکوی میں تو بی براہ مند میں الدی کا اطلان 3 نیم دول تو تکوی میں تو بی میں تو بی میں کہ دائی کر 3 نیم دول تو تکوی کی صورت میں)۔ 2 نیم دول تو تکوی کی صورت میں)۔ 3 نیم دول تو تکوی کی مورت میں)۔ 3 نیم دول تو تکوی کی کہ مورت میں)۔ 3 نیم دول تو تکوی کی تو تو بی دائی کو تکوی دائی کو تکوی کے ان تکا 3 نیم دول تو تکوی میں تو تی ہو الدی کی دول تو تکوی الدی کوی کے ان تکا 3 نو داد اس کی تکوی میں تو تی ہو نے دالے دائی کہ تکوی ہو تے دول کی تعداد 3 نو دائی کہ تکوی میں تو تی ہو مول کی تو تکوی کو تکوی کہ کہ دور میں دیل کو اکن کوی کر کو کہ تکھ کہ دول کی تو تکوی کر کوی کہ کہ دور میں دیل کو کہ کہ کہ دول کی تو کہ دول کی تعداد کر تکھ کہ دول کی تو کہ دیک تو کہ ہو تکی کہ دول کی تو کہ دائی کہ دول کی تو کہ دول کہ تو کہ دول کی تو کہ دول کہ تو کہ دول کی تو کہ دول کی تو کہ دول کہ تو کہ دول کہ تو کہ دول کی تو کہ دول کہ دول کہ دول کہ تو کہ دول کہ تو کہ دول کہ دول کہ تو کہ دول کہ دول کہ دول کہ دول کہ دول کہ دول کہ تو کہ دول کہ دول کہ تو کہ دول	ب کے لیے کوئی سوجود و و د حد تا تو بر 2014	ابزیکترز کا انتخاب کمپنی کے برز دانتی کمپنی کے برز دانتی ن قبل بینچام مدین می محکوم کی دفتر می محکوم کی دفتر محکوم کی دفتر محکوم کی دفتر کی دفتر محکوم کی محکوم کی دفتر محکوم کی محکوم کی دفتر محکوم کی محکوم کی دفتر محکوم کی محکوم کی محکوم محکوم کی محکوم کی محکوم کی محکوم محکوم کی محکوم کی محکوم کی محکوم کی محکوم محکوم کی محکوم کی محکوم کی محکوم کی محکوم محکوم کی محکوم کی محکوم کی محکوم کی محکوم کی محکوم کی محکوم محکوم کی محکوم کی محکوم کی محکوم کی محکوم کی محکوم محکوم کی محکوم کی محکو
با قس شراب تر ایم کی تاریخ سے چودہ لیے تو دکو چیش کر نے سراد سے کا نوش: ایم کی کی بنایو رہا بنادو یہ ڈال کے ہیں: سی سکتا ہے یا انیس اس کی تکر کی مس ایک ایک ہے۔ میں شاری فیصل کر ایم کو ارسال کر ہی۔	تف یا یا تا هم آباد بتکصویر روز ، کرا پتی کسائند کسطانق مندرجه ذیل کیگر بیل شرا اختابات کے نیوا _ اُُحْمَّس کے لئے لاگر ہوتا ہے)۔ نیول _ رکن مندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق ہر کئو ہے - رکن اپنے قام دوٹ کی ایک امید دار کود۔ بیر کی اپنے راحک ہے کہ ایک امید دار کود۔ ای میں اپٹر راحک میں بیراندر دی حوصلیا فرائی کی : ای میں اپٹر راحی میں بیادر ای میں اپٹر راحی ای باؤس ، B-دون ، بیاک B کی ایک ای ای اور ایک	ینز، 23 ایم فی خان روذ برا چی میں رجز وز ایت سے مطابق ایک کی دفعہ (3) (5) 15 ایت سے مطابق ایک کی دفعہ (3) (5) 15 لیک اگر وہ جا ہے)۔ پر بیکر دی کا شعنوں کی قدار ایک تا ر بیکر دی کا شعنوں کی قدار ایک تا اروں سے در میان تلسیم کر سکتا ہے۔ اروں سے در میان تلسیم کر سکتا ہے۔ ایک میں بیک ایک 2024 میں میں ایک میں دی تا ایک تا ایک میں بیک ایک 2024 میں میں ایک میں دی دی تا ایک تا ایک میں بیک ایک 2024 میں میں دی دی تا ایک میں دی دی تا ایک تا ایک میں بیک میں دی دی میں تلیم کر میں ایک میں دی دی تا ایک تا ایک تا ہے۔ ایک میں میں دی دی میں تک میں دی دی دی دی تا ایک تا ہے۔ میں بیک نی میں دی دی دی دی دی دی دی تا ایک میں دی دی تا ایک میں دی دی دی تا ایک تا ہے۔ دی دی د	یکویتح کراتا ہوں گی اور یا قومارف حیب ب کویت کراتا ہوں گی اور یا قومارف حیب ب کویت کمینی کا ڈائر یکٹر بنے سے لیے ماانل نے کویت میں کا ڈائر یکٹر بنے الے طاق نے درمان مند کی واخل کر نے والے طلح مل کے جار (مرف کیٹی سے ایک نے ڈاؤ دائر یکٹر سے طلح میں اس کیل کی میں ایک نے ڈیا دوامیدو نیٹ اس کیل کی میں ایک نے ڈیا دوامیدو لیے مراد ایک ای میں کمینی کے زیا داخلہ کا ڈونٹ نیپر سے کہ براورات کمینی سے شیئر روز ارتشہر	جا اے مندر ہونے بل مطلو بد حتا و یز اے تیکی تکریز کرتے وذوآ تصادر پر یف کورنش) ریگو یشتر کو 2019 منصقوں کی تعداد من تعداد من تعداد کو تعداد کی مقداد کی مقداد من تعداد اور کا تقسیل پر وفائل اور فتر کا چھ ۔ لیک سے کا مراد کی مقدام مدی ۔ لیک سے کا مراد کی کر تعداد کو ہو کا کہ مراسک کی تک تی من کے الح الدار کا تر کی طور پر کا م کر نے کے لیے (کم پنی سے تاراد انز کیلر کی کے لئے ہر کر کی کو میتر سے کیا جاتا چا جند کر کی کیلر کی کے لئے ہر کر کی کو میتر سے کیا جاتا چا جند کر کی کیلر کی کے لئے ہر کر کی کو میتر سے کیا جاتا چا جند کر کی کیلر کی کے لئے ہر کر کی کو میتر سے کیا جاتا چا جند کر کی کیلر کی کے لئے ہر کر کی کو میتر کر کی ایے تیک مود ان کی اسمید وارکو دیسی کہ کی کو دیتر کر کی ایے تیک مودف ایک امید وارکو دیسیک کے ایک رک کی کو دیک کی کہ کو دون اطراف کی کر تک کے ایک میک کو دیک کے تک کے دیک کی دونوں اطراف کی کر تک کی کہ دیک کی دونوں اطراف کی کار تھ کی مرک ان چیت کر دوای کیل ایک روانی جاتا ہے ایک کہ دیک کی تک کو دیک کی کہ کی کہ دوای کی را کی کی کہ دیک کی کو دیک کے تک کے دیک کے تک کے دیک کے تک کے دیک کے تک کے دیک کی تک کے تک کی کہ کہ دیک کو تک کے تک کو دیک کے تک کہ دیک کی کو تک کے تک کو دیک کے تک کی دونوں اطراف کی کار تو کی کہ تک کہ دیک کی تک کہ دیک کی تک کہ دیک کی تک کہ دونوں اطراف کی کار تو کی کہ دیک کی تک کہ دیک کی تک تک کی دونوں کہ دیک کی دونوں کہ کہ دیک کی تک تک کی تک کہ دیک کی تک تک کہ دول کی تک کہ دیک کی تک تک کی کہ تک کہ دیک کی کہ دیک کہ دیک کی دونوں اطراف کی کار تو کی کی کہ دیک کی تک کی کہ دیک کی کی کہ دیک کی تک کہ دیک کہ دیک کی تک کہ دیک کی کہ دونوں اطراف کی کار تو کی کہ دیک کہ دیک کی تک کہ دیک کی تک کہ دیک کہ دیک کہ دیک دیک کی دونوں ایک دیک کی دیک کہ دیک کہ دیک کہ دیک کہ دیک کہ دونوں ایک دونوں کہ دیک کی تک کہ دیک کہ دیک کہ دیک کی کہ دیک دیک کہ دیک دیک کہ دیک کہ دیک کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ تک دیک کہ دیک دیک کہ دیک کہ دیک دیک کہ دیک کہ دیک دیک دیک دیک کہ دیک دیک دیک کہ دیک دیک دیک کہ دیک دیک دیک دیک دیک دیک دیک کہ دیک دیک دیک دیک د	والا ڈائر کیٹر ہو یا کوئی اور جو ایکش لڑنا جا چاہتا۔ 2 _ ز_د بیچ تر مم شد و ۔ مطابق لڑنا جا چاہتا۔ 2 _ تر بیچ تر مم شد و ۔ مطابق لیڈ ایک لیڈ کینڈ 2 _ تر میڈ می میں ایک ایک ایک کی تینڈ کی ج 2 _ تر میڈ کی تحت اعام ہے۔ 3 را کیڈ وال کا طربقہ کما اور انتخاب) ریڈ لیشٹر ر 3 یکٹر وال کا طربقہ کما اور انتخاب) ریڈ لیشٹر ر 3 یکٹر وال کا طربقہ کما اور انتخاب) ریڈ لیشٹر ر 3 یکٹر وال کا طربقہ کما اور انتخاب) ریڈ لیشٹر ر 3 یکٹر وال کا طربقہ کما اور انتخاب) ریڈ لیشٹر ر 3 یکٹر وال کا طربقہ کما اور انتخاب) ریڈ لیشٹر ر 3 یکٹر وال کا طربقہ کما اور انتخاب) ریڈ لیشٹر ر 3 یکٹر وال کا میڈ پر ایکٹر ہو نے والے ڈائ 3 یکٹر کی ایک تحقی اور ایکٹر کی میں تحقی ہو نے والے ڈائ کو تو اوال کیٹر کی میں تحقی ہونے والے ڈائ کو تو اوال کیٹر کی میں تحقی ہونے والے ڈائ 3 یکٹر کا دو احتماد کی میں تحقی ہونے والے ڈائ 3 یکٹر کا دو احتماد کی میں تحقی میڈ پر کا پڑ کیو کی میں تحقی ہونے والے ڈائ 3 یکٹر کا دو احتماد کی میں تحقی ہونے والے ڈائ 3 یکٹر کا دو احتماد کی میں تحقی ہونے والے ڈائ 3 یکٹر کا دو احتماد کا پڑ لائٹر ہو کے مراسا ڈیر کوئی کا تحقی رائے ہو کے والے ڈائ 3 یکٹر کا دو احتماد کی پڑ لائر ہو کے مراسا ڈیر کوئی کی تحقی راد دور اور کا دور دوئ 3 یکٹر کا دیڈ کی میں تحقی کی ٹیٹر رو کا دی کا تحقی راد دور دوئر کی کا تحقا ہے ہو کے دائے ڈائی کا دور دوئی کا ڈیڈ کر میں کا دور دوئی کا دوئر کا دور دوئی کی ٹیٹر رو	د باز کیفرز کی موجود مد حد 20 آختر 20 20 2 ب کے لیکونی تلحیق میں چا جدور خاتر بر 20 2 ب کے لیکونی تلحیق میں چا جدور خاتر ہو نے المحکور کی تلحیق میں جدور خاتر کیفر المحکور کی تلحیق میں کہ حدود (المراح کیفر المحکور کی تلحیق میں کہ مدید (ایک کیفر کیفر کا تک کیفر المحکور کی تلحیق کی تلحید (10 دیک کی تلحید (10 دیک کیفر المحکور کی تلحیق کی تلحید (10 دیک کی تلحید (10 دیک کیفر المحکور کی تلحیق کی تلحید (10 دیک کی تلحید (10 دیک کیفر المحکور کی تلحید (10 دیک کی تلحید (10 دیک کیفر (10 دیک کیفر المحکور کی تلحید (10 دیک کیفر (10 دیک کیفو (10 دیک کیفو	ابر کیفرز کا اتلا ب کیفی کے بروز آناظ بر یک کیفرز کے اللا ن کی بختی کے بروز آناظ بر بر کیفرز کے اللا کے بر طرار ا ا سک کی دفعہ ا سک کی میں تب سک کی کی کی کی کی کی کی کی سک کی کی کی کی کی کی کی کی میں کی کی کی کی کی کی کی کی میں کی کی کی کی کی کی کی کی میں کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی میں کی ک
با قى شراب تى اىرى تارىخ بە يۇد. كەنخەركە بىلار يا يادون دال <u>كە تىن:</u> كەنكار بىلار يا يادون دال <u>كە تىن:</u> يىكا بى يانىي 11 كىلارى مى اكيس ياتى بى - باتى بى - مىن شارىغ يىل ، كرا يى دار سال كرىں - ئاي يە يە داقى كىچنى ئەشكىر دىدا راد كى مالا نە	تفس یا یا تا هم آباد تک صوبی روز ، کر اپتی کے سائند کہ حطالق مندرجہ ذیل کیکلر یوں شرا اختابات کے لیے حال میں مندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطالق ہی کیک نے والے شخص کے لیے لاگو ہوتا ہے)۔ ہے۔ رکن اپنے قتام ووٹ کی ایک امید وار کو و ہے۔ رکن اپنے قتام ووٹ کی ایک امید وار کو و ہے۔ رکن اپنے قتام ووٹ کی ایک امید وار کو و پاکس ایڈر کسی میں میں اور کی مصل پاؤرائی کی و میں یا قتان سے التھاں ہے کہ وہ مندرجہ بال ایک پاکس ، B-99، باک B ، S.M. C. H. S، B	ینز، 23 ایم بنی خان روذ بر اپنی میں رجز وز ایت سے سطا بق ا کی دفتہ (3) (3) 15 ایت سے سطا بق ا کی سکی دفتہ (3) (3) 15 لیے اگر وہ جا ہے)۔ پر کیٹرو کی نشستوں کی قداد کے تناسب سے پر کیٹرو کی نشستوں کی قداد کے تناسب سے اروں کے درمیان تیسیم کر سکتا ہے۔ اروں کے درمیان تیسیم کر سکتا ہے۔ اروں کے درمیان تیسیم کر سکتا ہے۔ کی سے باک نیسی کر سکتا ہے۔ مو باکل نیس میں ادا کیا جا بی ہے۔ چنا نی طبیع کی موض کے حال کا سے ادا کیا جا بی ہے۔ چنا نی طبیع کے موض کے حال	یکویتح کراتا ہوں گی اور یاقو مارف حبیب ب کویتح کراتا ہوں گی اور یاقو مارف حبیب ب (CCC-20) کے ریکولیشن ۲۸ کی منر دور کیت تعنی کاؤالز کیلر بنے کے لیے ماانل نے بیار ورفوں کی تشییم اس کیلر کی سے تعنی کر منا الل جار حرف کیلی سے آراد ڈالز کیلر کے طور تیس اس کیلر می شمالیک نے داوامیدو نیس اس کیلر می شمالیک نے داوامیدو ایس اس کیلر می شمالیک نے داوامیدو کی تم اوالی ای ای سی می تعنی کے در ادامیدو بی کہ مراد ایک ای سی می تعنی کے در ارتشار کاؤنٹ نیم رونا رامید می کیا محاوان "ارتشار کے قرام کر دو دیک اکاؤنٹ میں میدار دارا	جاا ب مندر ہونہ یل مطلو بد متا و بزات کیلی تکریز کر تو وذا تصادیر بوریٹ کورنس) ریگر بطن وی 2010 (1910 منصقوں کی تعداد ہو منصقوں کی تعداد ہو کہ میں کہ تعداد مندی کے اور اور کا تعلیم کی دفائل اور دفتر کا چھ۔ لیے سے کا م کر نے کی رضا مندی کے ایس اور دفتر کا چھ۔ لیے میں کا تراد اور کیلر کے طور پر کا م کر نے کے لیے (کیلی کے تارد اور کیلر کے طور پر کا م کر نے کے لیے مرنے کا پایا چا ہے تم کس کی تعداد دو ایو کہ کی تکی تی تا ہے مرنے کا پایا چا ہے تم کس کی تعداد دو ایو کی کی تکی تی تا ہے مرنے کا پایا چا ہے تم کس کی تعداد کو در پر کا م کر نے کے لیے مرنے کا پایا چا ہے تم کس کی تعداد کو در پر کا م کر کی وہ میں مرنے کا پایا چا ہے تم کس کی تعداد کو در پر کا م کے کے مرکن ایے تمام ووں ایک امید وار کو سیک کے لیے مرکن کی وہ تا مرکن ایے تمام ووں ایک امید وار کو سیک کس کے یا مرکن ایے تمام ووں ایک امید وار کو سیک کس کو در تعدیم کی وہ تک مرکن ایے تمام ووں ایک امید وار کو سیک کس کو در تعدیم کی وہ تک مرکن ایے تمام ووں ایک امید وار کو سیک کس کو در تعدیم کے وار تک مرکن ایے تمام ووں ایک امید وار کو روں کس کو تا کے لیے مرکن کی تعداد دو کے دور ایک ایک کی کو دیک کی وہ تک کو دیک کے وار تک کو دی تک کی کو دیک کی کو دی کس کے وار کر تک کر کو دی کس کے یا مرکن کے تعداد دو کہ دور کو کس کو دار کے دو کس کی کو دی کس کی کو دی کس کو دار کے دو کس کی کو دی کس کے یا مرکن کو دور کی میں کر کی کہ کو دور ایک دی دی کس کی کو دی کس کو در کی کی کو دی کس کے دی کس کی کو دی کس کی کو دی کس کی کو دی کس کی کی دی کی کس کو دی کس کی کو دی کس کی کی تر کی کو دی کس کی کو دی کس کی کی کو دی کس کی کو دی کس کی کو دی کس کی کی کس کی کو دی کس کی کی تو تک کس کی کو دی کس کی کو دی کس کی کو دی کس کی کو دی کس کس کی کس کس کی کس کس کی کس کس دی کس کس دی کس کس کس دی کس کس کی کس دی کس کس کس دی کس کس کس کس کس دی کس کس دی کس کس دی کس دی کس کس کس دی کس دی کس دی کس دی کس دی کس دی کس کس دی کس کس دی کس دی کس کس کس دی کس کس دی کس دی کس دی کس کس کس کس دی کس کس کس دی کس کس دی کس دی کس کس دی کس کس دی کس دی کس کس	والا ڈائر کیٹر ہو یا کوئی اور جو ایکش لڑنا جا چاہتا۔ 2 _ ز_د بیع تر می شد و ی سال تو لدیک نیز () 2 _ ز_د بیع تر می شد و ی سال تو لدیک نیز () 2 _ ز_د بیع تر می شد و) سال تو لدیک نیز () 2 _ تر تحق محفوی ایس ایک رو کی کے ر 2 _ تر کیڈوں کا طریقہ کا دورا تجاب) ر تو لینیک رو 2 _ تر کیڈوں کا طریقہ کا دورا تجاب) ر تو لینیک رو 2 _ تر کیڈوں کا طریقہ کا دورا تجاب) ر تو لینیک رو 2 _ تر کیڈوں کا طریقہ کا دورا تجاب) ر تو لینیک رو 2 _ تر کیڈوں کا طریقہ کا دورا تجاب) ر تو لینیک رو 2 _ تر کیڈوں کی کی مورت میں) ۔ 2 _ تر کیڈوں کی کی مورت میں) ۔ 2 _ تر کیڈوں کی کی مورت میں) ۔ 2 _ تر کیڈوں کے لیے دستان ہو نے دالے ڈائر) 3 = 100 = 300 3 = 100 = 300 5 = 100 = 500 5 = 100 = 500 2 = تر فوا سے کی جانی جی کو دور روز نی کو ڈائر کر ر 2 _ ر تو اس کے کا دیک میں تحق ہو نے دالے ڈائر) ۔ 3 = تو ار کو ڈائر کی میں تحق میں ۔ ان کی کوئی کی ٹیتر رو 3 کا ر ((CNIC) کی کا کی کی کی تی تر رو 3 کا ر ((CNIC) کی کا کی کی کی تی تر رو ر کی را ان کی رو کی کی تی تر رو 3 کا روز ((CNIC) کی کا کی کی تی کی تر تر رو رو رو کی را اور در 3 کی کر دیکل نوز ر بیع می می مور میں کی تو کی کو تک رو کر کی کو تی تر رو کے رو کر کی کوئیتر رو کے مار ان کو رو کی کوئیتر رو کے مار ان کی کوئی کوئی کوئیتر رو کے مار کی تو کی کوئیتر رو کے مار کوئی کوئیتر رو کے مار کوئی کوئیتر رو کی مار گوئی کوئیتر رو کی مار کوئی کوئیتر رو کی کوئیتر رو کی کوئیتر رو کی مار کوئی کوئیتر رو کی کوئیتر رو کوئی کوئی کوئیتر رو کی کوئیتر رو کی کوئیتر رو کوئی کوئیتر رو کی کوئیتر رو کوئی کوئی کوئیتر رو کوئی کوئی کوئی کوئیتر رو کوئی کوئیتر رو کوئی کوئی کوئیتر رو کوئی کوئیتر رو کوئی کوئیتر رو کوئی کوئی کوئی کوئیتر رو کوئی کوئیتر رو کوئیتر رو کوئی کوئیتر رو کوئیتر ر	ن از کیلز ری موجود مد = 21 تور 24 20 ک ب ک لیکو کی تلحی تلحی ، چا جد و در نائز ہو نے (2023 تا در تلحی تلحی تلحی ، چا جد و در نائز ہو نے نظری از کلم نظری از کلم نظری از کلم نظری از نظری کی تلحی ، قد (2011 کر کیلز نظری از کلم نظری کی تلحی کی تلحی ، قد (2012 کر کیلیئ نظری کی تلحی کی تلحی ، قد (2012 کر کیلیئ نظری کی تلحی کی تلحی ، قد (2012 کر کیلیئ نظری کی تلحی کی تلحی ، قد (2012 کر کیلیئ نظری کی تلحی کی تلحی ، قد (2012 کر کیلیئ نظری کی تلحی کی تلحی ، قد (2012 کر کیلیئ نظری کی تلحی کی تلحی ، قد (2012 کر کیلیئ نظری کی تلحی کی تلحی ، قد (2013 کو تلحی الم نظری کی تلحی کی تلحی ، تلحی ، قد (2013 کو تلحی) نظری کی تلحی کی تلحی کی تلحی ، کیلیئ نظری کی تلحی کی تلحی کی تلحی ، کیلی کی کی نظری کی تلحی کی تلحی کی تلحی کی تلحی ، کیلی کی کی نظری کی تلحی کی تلحی کی تلحی ، کیلی تلحی کی نلحی ، کیلی کی کی نظری کی تلحی کی تلحی ، کیلی تلحی ، کیلی کی تلحی ، کیلی کی کی نظری کی تلحی کی تلحی کی تلحی ، کیلی تلحی ، کیلی کی کی کی ، کیلی کی کی نظری کی تلحی کی تلحی کی تلحی کی از تلحی کی کی کی ، (2013 کی	ابتر کیفرز کا افتاب تبخی کے بروز آفت تبخی کے بروز آفت ن تب تبخی کے بروز آفت ن تب تبخی کے بروز آفت ن تب تب تب تب تب تب تب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
با قى شراب تى اىرى تارىخ بە يۇد. كەنخەركە بىلار يا يادون دال <u>كە تىن:</u> كەنكار بىلار يا يادون دال <u>كە تىن:</u> يىكا بى يانىي 11 كىلارى مى اكيس ياتى بى - باتى بى - مىن شارىغ يىل ، كرا يى دار سال كرىں - ئاي يە يە داقى كىچنى ئەشكىر دىدا راد كى مالا نە	تفس یا یا تا هم آباد تک صوبی روز ، کر اپتی کے سائند کہ حطالق مندرجہ ذیل کیکلر یوں شرا اختابات کے لیے حال میں مندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطالق ہی کیک نے والے شخص کے لیے لاگو ہوتا ہے)۔ ہے۔ رکن اپنے قتام ووٹ کی ایک امید وار کو و ہے۔ رکن اپنے قتام ووٹ کی ایک امید وار کو و ہے۔ رکن اپنے قتام ووٹ کی ایک امید وار کو و پاکس ایڈر کسی میں میں اور کی مصل پاؤرائی کی و میں یا قتان سے التھاں ہے کہ وہ مندرجہ بال ایک پاکس ، B-99، باک B ، S.M. C. H. S، B	ینز، 23 ایم فی خان روذ برا چی میں رجز ذ بیات تر سطا بق ا کی دفتہ (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3	یکویتح کرا تا ہوں گی اور یا قومارف حسیب بر اور اور اور اور ایک کی اور یا قومارف حسیب بر ایک کی کا داور ایک کی مرد اور	جااب مندر جدة بل مطلو بد متاويزات تيني تكريم فردَ وذا آف كار بور يت كورنس) ريم ليشور و 2010 (1911 من عنوان) ريم كورنس) ريم ليونو 01 03 05 105 105 105 105 105 105 105	والا ڈائر کیٹر ہو یا کوئی اور جو ایکش لڑنا جا چاہتا۔ 2 <u>کر ز</u> بیع تر کم شد و یے مطابق لڑنا جا چاہتا۔ 2 <u>کر زیع تر مم شد و یے مطابق لیڈ کوئی کی</u> 2 <u>کر یک</u> تحت اعام میں۔ 2 <u>کر یک</u> تحت اعام میں۔ 2 <u>کر یک</u> تحت اعام میں۔ 2 <u>کر یک</u> شرق شری کی کہ ورت میں)۔ 2 <u>کو</u> کو تحت ایک رونا حدی کا مطال میں۔ 2 <u>کو</u> کو تک طریق شہری کی مورت میں)۔ 2 <u>کم میں اور اور در بحت میں یہ ما</u> میں کہ اور کی تحق اعام میں۔ 2 <u>کم میں اور اور در بحق میں یہ ما</u> میں اور کم تحق اور اور کا مالانان 2 <u>مک میں در نیم کی</u> کہ مورت میں)۔ 2 <u>ملیم دی کے لیے دستیا ہو اور کی تحق اور ایک میں میں میں میں کہ میں اور ایک کی کہ مورت میں)۔ 2 <u>ملیم دی کے لیے دستیا ہو اور کی تحق اور ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں</u></u>	ن از کیفرز کی موجود مد = 2 انتو بر 2014 تا ب ک لیکونی تلح قصی ، چا جده در خاتر بود نیا ب ک لیکونی تلح قصی ، چا جده در بناتر بود نی نیگر یا نیگر از کیفرز نیگر از کیفرز نیگر از کیفرز نیگر از کیفرز کیفران کرد (1 ارداز نیگر از کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز نیگر از کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز امپ چر بر حلف نیگر ایک مراسد در ان برگ بیش نیگر از کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز (1 ارداز نیگر از کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز (1 ارداز نیگر ایک تیفرز کیفرز کیفرز (1 ارداز نیگر ایک تیفرز کیفرز کیفرز (1 ارداز نیگر ایک تیفرز کیفرز کیفرز (1 ارداز نیگر کیفرز کیفرز کیفرز (1 ارداز نیگر کیفرز کیفرز کیفرز (1 ارداز نیگر کیفرز کیفرز (1 ارداز نیگر کیفرز کیفرز کیفرز (1 ارداز نیگر کیفرز کیفرز کیفرز (1 ارداز نیگ کیفرز کیفرز کیفرز (1 ارداز نیگ کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز (1 اردیک ایک کیفرز (1 ارداز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز (1 ارداز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز کیفرز (1 ارداز کیفرز کیفز	ابتر کیفرز کا اقتاب تبخی کے بروز آفت تبخی کے بروز آفت بر کیفرز کے انتخاب <u>بر طبر کی</u> <u>بر طبر</u> <u>ا</u> <u>ا</u> <u>ا</u> <u>ا</u> <u>ا</u> <u>ا</u> <u>ا</u> <u>ا</u>
باق ش اے تی ایم کی تاریخ ہے چودہ لیے تو کو دیش کی کی بنا دریا ہے وہ دو۔ لیے تو کو دیش کی کی بنا دریا ہے ایس سی تاریخ میں اس کی کم رہیں اس کی کہ باق ہے۔ اپنے پر واقع کم بنی سے شیئر رہنر ارکو سالاند روک لیے پر مجبور ہوگی۔	تف یا یا تاقم او دیتھ سوچہ روڈ ، کر اپنی کے سائن کے مطالق مندرجہ ذیل کیلگر یوں شرا انتخابات کے نے والے شخص کے لئے لاگو ہوتا ہے)۔ ہے۔ رکن اپنے قدام ووٹ کی ایک امید وار کود۔ ہے۔ رکن اپنے قدام ووٹ کی ایک امید وار کود۔ میں این ایڈر لی بلا روڈ ایک کی رومند پر اور ایک سل ایڈر لی بلا روڈ کی حصل اور ان کی کی رومند رود ایک سل ایڈر کس B۔ وار بی کی ایک امید وار کود۔ ایک سل ایڈر کس B ۔ وار میں ایک کی رومند رود بارک کی رود کی رومند رود بارک کی رود مند رود بارک کی رود کی رومند رود بارک کی رود کی رو ک کی رود مند رود بارک کی رود کی رود ک رومند رود بارک کی رود کی رود کی رود مند رود بارک کی رود مند رود بارک کی رود رود کی کی رود کی کی رود کی رود کی رود	ینز، 23 ایم فی خان روذ برا چی میں رجز ذ بیات تر سطا بق ا کی دفتہ (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3	یکویتی کراتا ہوں گی اور یا تو مارف حسیب بر کویتی کراتا ہوں گی اور یا تو مارف حسیب بر کار اور کا تعادی کا اور یا تو اور یا تو اور بر کار اور میں کا تو اور یا کر نے والے طبح سر کے رامان نو جار سرف کیلنی سے آزاد وارا کر یکر سرط سر کے رامان کی تو تو وال تیں اس کیلکری شامیل سے زیاد وامید و تیں اس کیلکری شامیل سے زیاد وامید و کا تو نی کی کو تی تی کہ کو تو اسید میں ایک سے زیاد وامید و کا تو نو تی کی کو تی تی کہ کو تو اسید و کا تو نو تی کی تو تو با کا تو نوں شامیل سے تاروں اس کا تو تو تی کی تو تو ایک ای تر موار ارشام کے تر اور طور پر تماس شین کی اور اور میر و تو تی کی طور ہوتا سے شیئر ہوا لا کھ تی تیز کا تو تا تی ای تاروں اور اسیاس کا تو تو تی کی تو تو تو تا ہو تھی تی مولد اور تاروں اور اور میں اور اور اور تو تو تاروں تاروں اور تاروں تا کے تو تو تا ہو کہ تو تا تا تو تا تو تا تو تا تو تا تا تو تا تا تو تا تو تا	جاا ب مندر ہونے بل مطلو بد متا و بزات کی تیکی تیکر شرکز وذا آف کار پور یف کورنس) ریگر بلیشون (200 (191) منصقوں کی تعداد من من کی رضا مندی ۔ کے امید واروں کا تنسیلی پر وفائل اور فتر کا چھ ۔ نے سے کام کر نے کی رضا مندی ۔ کے امید واروں کی تنسیلی پر وفائل اور فتر کا چھ ۔ اگر مرف ایک کی کی لیگر کی کے لئے بر کری کو ویتر در نے والے تحقی کی کی لیگر کی کے لئے بر کری کو ویتر در نے والے تعنی اور وال کی بلیگر کی کے لئے بر کری کو ویتر در نے والے تعنی اور وال کی تعلی اور وال کر کی اینے تیک اور تیک کی لیگر کی کے لئے بر کری کو ویتر در نے وال نے تیک وول ایک ایک ایک کو ویتر کر کی اینے تیک وول کی ایک کی کو ویتر کر کی اینے تیک وول کی ایک کی کو ویتر کر کی اینے تیک وول کی ایک کی کو ویتر کر کی اینے تیک وول کی ایک کی کو ویک کے ایک رائل کو بر تو دوبا متا بلیڈ نے ار کو تیک کی کر ایک کی وول اطراف کی کار آ مک کار تیک کو ویک کے ایک ویک کی کو ویک کے لئے وال اس وال کی کار آ مک کار تیک کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا	والا ڈائر کیٹر ہو یا کوئی اور جو ایکش لڑنا جا ہے ہت 2 نے ذریعے تر مہ شد و یے مطابق لرنا جا ہے ہت 2 نے دریعے تر مہ شد و یے مطابق لیڈیڈیز (کا 2 نے دریعی ایس ایک رو کی میں رکھنے کے 2 نے دیکو ای کا طرابی ایک رو کی میں ادر کی مجاد 2 نے دیکو ای کا طرابی کی مورت میں)۔ 2 نیکٹروں کے لیے دستا ہے وہ دلو کی تعداد 3 نام داور میں میں تی ہے مار سائی رو کی میں ان 3 نام دو او دو دو یے تی میں مہ میں دائی کی مورت میں)۔ 3 نام دو او دو نے دو تی تام میڈو 3 نام دو او دو نام دیکٹر ہو نے دو الے ڈائر 3 نام دو او دو میں کی تعداد کی میں تیز کر دائر 3 نیک کے لیے اس ایک تر کی مار تیک رو تی مار سائی مرد 3 نام ایک رود محلفات کا برا میں مانٹوں ہو نے دو الے ڈائر 3 نام از پر برقی در ایچ میں مانٹی مور کی الی ڈو لیڈ مرمد میں او دو میں کی تعدی کی کا تک کی کا کی کا کی کوئی کی کے تیک رہے 3 نام از پر برقی در ایچ میں مانٹی مور نام دور میں کیٹر رہے 3 نام از پر برقی در ایچ میں مانٹی مور نام دور میں کا مورز کی کا تو کی کوئی ہو دو دور کی تی کوئی ہو دو دو الی کوئی کر دور کی تعدی کوئی کے تک راسا ڈیز کی دائر 3 نیک دور ایک دور ایک میں نو کی کی کوئی کی تیک کی تیک کیٹیئر رہے 3 نام دو نیک ماروں میں کوئی رہی دو دو الی کوئی کی تعدی کی دائر کی دائر کی دائر کی دو	ب کے لیے کوئی تھی تحسن ہے دو اکتو بر 2014 تا ب ب کے لیے کوئی تھی تحسن ، چا ہے دور بنائر ہونے ب کے لیے کوئی تھی تحسن ، چا ہے دور بنائر ہونے کی تھر کی کی تھر کی تعلق تحسن ، چا ہے دور بنائر ہونے کی تھر کی تعلق ہے کہ دفتہ (17 مائز کی تمرز کی تعلق کی تعلق ہے کہ دفتہ (17 مائز کی تمرز کی تعلق ہے کہ تعلق ہے کہ اسمیر دائز کی تمرز کی تعلیم ہے کہ میں کہ تی حالت کے ترکیم (17 داداً ال کی تعلیم کی تعلیم اسمیر کہ تعلق ہے کہ دفتہ (17 داداً ال کی تعلیم کی تعلیم اسمیر کہ تعلیم کی تحلیم (17 داداً ال کی تعلیم کی تعلیم کی تحلیم کہ تعلیم (17 داداً ال کی تعلیم کی تعلیم کہ تو کہ تعلیم کہ تعلیم کہ تو کہ تعلیم کہ تعلیم کہ تعلیم کہ تو کہ تعلیم کہ تعلیم کہ تو کہ تعلیم کہ تو کہ تعلیم کہ تعلیم کہ تعلیم کہ تعلیم کہ تو کہ تعلیم کہ تو کہ تعلیم کہ تو کہ تعلیم کہ تعلیم کہ تو کہ تعلیم کہ تعلیم کہ تو کہ تعلیم کہ تعلیم کہ تو کہ تعلیم کہ تو کہ تھی کہ تھی کہ تھی تھ تھی تھی تھی کہ تعلیم کہ تو کہ تھی کہ کہ تعلیم کہ تھی تھی تھی تھی کہ تھی کہ تھی تھی تھی تھی کہ تھی	ابتر کیفرز کا اقتاب تبخی کے بروز آفت تبخی کے بروز آفت بر کیفرز کے انتخاب <u>بر طبر کی</u> <u>بر طبر</u> <u>ا</u> <u>ا</u> <u>ا</u> <u>ا</u> <u>ا</u> <u>ا</u> <u>ا</u> <u>ا</u>
باق شراب ترا با دون قال کے تین لی تو کو بی کر بنا دون قال کے تین لی تو کو بی کر بنا دون قال کے تین سی تاریخ میں اس کی کر میں ایک باق ہے۔ میں شاریخ فیل ، کر این کو ار سال کریں۔ ایت پر دون تی سی کو بی میں ایک روانے کے م میں شاریخ فیل ، کر این کو ار سال کریں۔ میں کا تامی (حصوں کی تعداد) میں کا تامی (حصوں کی تعداد)	تفس اینا تاهم او دیتک موجه رود ، کرایتی کسا تینا کسطالق سند جد ذیل کنگر بیان شرا اختابات کے نیوال رک مندر جد ذیل طریقہ کار کے مطالق بر کیل ہول رک مندر جد ذیل طریقہ کار کے مطالق بر کیل ہول رو کی محمد باقد اور کی حصل افراز کی دو ہے ۔ رکن اپنے قام ووٹ کی ایک امید وار کود ۔ بیر کس این ایڈر لس محمد باقد اور کی حصل افراز کی کار داخل سے ایڈر لس محمد باقد مواد کی محمد باقد اور کود ۔ ای سی ایڈ تکان این ایک محمد باقد مواد کود ۔ ای سی ایڈ تکان این استان ہے کہ وہ مندر ہے بال ای ایک سی ایڈ تکان این التان ہے کہ وہ مندر ہے بال ای ایک سی ایڈ تکان این التان ہے کہ وہ مندر ہے بال ایک سی ایڈ تکان سے التان ہے کہ وہ مندر ہے بال جو ان سی میں ایک بر ہوں جو ان سی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می	ینز، 23 ایم بنی خان روذ بر اپنی میں رجز وز ایت تر سطا بق ا کی روند (((((((((((((((((((یکوی کراہ ہوں گی اور یا تو مارف حیب ب کوی کراہ ہوں گی اور یا تو مارف حیب ب کوی کر ایہ ہوں گی اور یا تو مارف کر خرور کور مندی واطن کر نے والے طحص کے بے ورونوں کی تشیم اس کھکری کے قت ڈال تیں اس کیلکری شامی کے آواد دامیدو تشیم اس کیلکری شامی کے تار دوا امیدو تشیم اس کیلکری شامی کے تار دوا امیدو تی مرا کیلکری شامی کی میں کو تار دوا امیدو کے مراد دوا تی ای کیل میں ایک تر بیا دامیدو تی کہ مراد دوا تی ای کیل میں اور دامیدو تی کے مراد دیک کا دو دوا تارید اس میں دوا دوا تی کہ مراد دوا تی دی کیل میں روز ار شعر کے تو باخی کی مورد میں بین معلومات تا دو تاری کے والی تو تا سے شیئر بولڈ کی طور تو تا سے شیئر ہولڈ کر کے تار کے تار کیلو شور نے حضا بولڈ کی تی تار کیلی کے تار کا دوا دی تارید دولا کی طنیز کر کے تو مادی کی مورد میں بین معلومات تا دو تاری کے در مادی میں تا سے شیئر ہولڈ کی تار کی در میں دولا کی طنیز کر کر در دول	جاا ۔ مندر بعد ذیل مطلو بد متاد برات تمانی تکریز کر وذا تس کار بی دیک کورش) ریگر بطن و 2010 (1911 منصقوں کی تعداد من من کی متعادد کر متار مندی۔ لیے سے کام کر نے کی رشامندی۔ لیے اسید واروں کا تفسیل پر وفائل اور فتر کا پید۔ (کمپنی کے آور وارز کیلر کے طور پر کام کر نے کے لئے من کی ایک کار وارز کیلر کے طور پر کام کر نے کے لئے من کی ایک کار وارز کیلر کے طور پر کام کر کی گوریز من کی ایک کار وارز کیلر کے طور پر کام کر کی تی کار من کی ایک تعداد در ایک کی تعداد و ور بالا متابا بر من کی ایک تعداد در کار وارز کیلر کی تعداد و ایک تعداد کر کار وارز من کار ایک تعداد در کار وارز کار تعداد کار کار کار من کار ایک تعداد در کار و من کار تعداد کار تعداد کار من کار تعدید کار و میں کار کار تعداد کار تعداد کار تعداد کار تاک کار تعداد کار تاک کار تعداد کار میں کار کار کار تعداد کار تعداد کار تعداد کار تعداد کار تعداد کار تاک کار تعداد کار تاک کار تعداد کار تعداد کار تعداد کار میں کار کار کار کار کار تعداد کار تعداد کار تعداد کار تاک تار کار میں کار کار کار کار کار تعداد کار کار تعداد کار تاک کار تعداد کار تاک کار تعداد کار تاک کار تعداد کار تاک تار کار کار کار کار کار کار کار کار کار ک	والا لذائر کمتر ہو یا کوئی اور جو ایکو تل ایل تا جا جا ہے ۔ 2 _ 5 ر بیع تر می شد و ے مطابق لا نا جا جا ۔ 2 _ 5 ر بیع تر مم شد و ے مطابق لا ملک نیز () 2 _ 5 ر بیع تر می شد و) سالا ایس لدائد نیز () 2 _ 5 سیکو کا دو ب سالا میں ر کلے کے ۔ 2 ر کو تک تلخ ایک رو ک کے تک از رو ک کا العالان ان 2 ر کو تک تل ایس ایک رو لا کی اور ک کی تک از رک کوئی کوئی ایس ایک رو کا کے ۔ 2 ر کو تک تل ایس ایک رو لا کی اور ک کی تک اور ک کی تک اور ک کوئی کوئی تک رو کا میں ان 2 ر کو تک تل میں رو ک کی تحد از ایک کا مالان ان 2 ر کو دو را تل تک رو لا کی رو ایس ایک میں رو ک کے ۔ 2 ر کو دو را تل تک رو کی کا مورت میں ۔ 2 ر کو دو متعاقد کا بذل ان تر دو نے مرا سالن سر 7 میں تو ایک تک میں تک رو کی تحد او کہ ان 3 تا 100 = 300 - 5 مالان ایک رو کی تحد او کہ 100 - 5 مالان کا رو کی تحد او کی تک میں ۔ 3 تعداد ایک کم تک تحق با دو را کو ان کو تک میں تک میں ۔ 3 تک رو دو مناف تک ہونے والے لوائی تک موز دی کی ایک میں ۔ 3 تعداد ایک میں تک تو میں ۔ 2 مالان کو را کو تک میں ۔ 3 تعداد ایک میں تک ہونے والے لوائی تک رو کا کہ تحد او رو کہ کی تحد او رو کہ کی تحد ہو ۔ 3 تعداد ایک میں کو تک میں تک میں ۔ 2 مالان کو رو ک مالان کو رو ک کے موال کو اور دو کر کی تک میں ۔ 3 تک رو دی کو ایک میں تک میں میں میں کو رو کہ کے او تک او تک میں تک میں ۔ 3 تک رو دو میں ۔ 2 تا م طلو یہ معلوا ۔ 1 ور دو رو کی کو تک رو کی کو تک رو کی کوئی رو کے مالو ان کو رو دی کی میں تک میں ۔ 3 تک رو دو رو نے کو کی مور میں میں ایک میں تک میں او تک رو دی کو ایک میں کوئی رو کی کوئی رو کی کوئی رو کو کو کوئی کوئی رو دی کو کوئی رو کو کوئی کوئی رو کوئی کوئی رو کی کوئی رو کوئی کوئی رو کی کوئی رو کوئی کوئی رو کوئی رو کوئی کوئی رو کوئی کوئی رو کوئی کوئی رو کی کوئی رو کوئی رو کی کوئی رو کی گوئی رو کی گوئی رو کوئی رو کوئی رو کی گوئی رو کی گوئی رو کوئی رو کوئی رو کوئی رو کی گوئی رو کوئی رو کی گوئی رو کوئی رو کوئی رو کی گوئی رو کی گوئی رو کوئی رو کوئی رو کی گوئی رو کی گوئی رو کی گوئی رو کی گوئی رو کوئی رو کی گوئی رو کوئی رو کو کو میں رو کی گوئی رو کی گوئی رو کی گوئی رو کوئی رو کی گوئی رو کی	ان ان کیفر کو موجود مد 20 تو بر 2014 تا یک دار 20 تو بر 2014 تو بر 2014 تا یک دول کو تو بر 2014 تو بر 2	ابر کیفرز کا افتاب تبخی کے برد آفت تبخی کے برد قد آف بر کیفرز کے انتخاب ن تب تبخیز کی کیفرز کے SECP - تب تبخیز کیفیشز ا النہ تبخیز کیفیشز ا النہ کیفیز کیفیشز ن النہ کیفیز کیفیشز ن النہ کیفیز کیفیشز ن النہ کیفیز کیفیشز تب تب تبخیز کیفیش تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب ت
باق ش ا ب تی ا م کی تاریخ ب یودو ل نو کو کو ش ا ب تی ا م کی تاریخ ب یودو ل نو کو کو ش کی کی بنا دیر یا بادو م خ ال کی تی : سی تاریخ کو ش کی کی بنا کہ تی کی میں آیک سی تاریخ کو ش کی تی کہ تی کی کہ تا کہ کی تی کے کہ ش شاریخ یوم کی تعدیز ریمزا رکو سالا نہ میں کا تا ب (تصویل کی تعدید) کے دول یہ سی تحت اینا رکو تو دیک مل یقن	۲ مَنْ اینا تأهم او دیتصویی رود بر ایتی سی ایت ک سی اینا تأهم او دیتصویی رود بر ایتی سی ایت ک سی ایت مندرجد ذیل ملکرید می میں ایت ایت کے ای سی میں ایت کام دور نے کی ایک امید دار کود۔ میر کن اپنے تمام دور نے کی ایک امید دار کود۔ میر کن اپنے تمام دور نے کی ایک امید دار کود۔ میر کن اپنے تمام دور نے کی ایک امید دار کود۔ میر کن اپنے تمام دور نے کی ایک امید دار کود۔ میر کن اپنے تمام دور نے کی ایک امید دار کود۔ میر کن اپنے تمام دور نے کی ایک امید دار کود۔ میر کن اپنے تمام دور نے کی ایک ایک میں ایت کی ایک میر کن کے ایک میں ایت کان کی دارت میں ایت کان کی دور میر کی ایک کی دارت میں ایک کار دور میر کن ایور تم کی دارت کی روز ایک کی دارت میں دیر دور میر کن ایک کی دارت میں دیر کار کی دور میر کن کی دارت میں دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر میر کن کی دارت میں دیر	ینز، 23 ایم فی خان روذ برا چی میں رجز وز ایت تر سطا بق ا کر یک دفعہ (3) (3) 15 ایت تر سطا بق ا کر یک کی دفعہ (3) (3) 15 لیک الکو ہوتا ہے)۔ لیک الکو ہوتا ہے)۔ پر کا مرکز کی نشستوں کی قدوا د کے تناسب سے پر کا مرکز کی نشستوں کی قدوا د کے تناسب سے الیک میں دستیا ہے 100 دون ڈال سکتا الیک درمیان تشیم کر سکتا ہے۔ الیک درمیان تشیم کر سکتا ہے۔ موالی نیم در سالے 2014 دوس کے دار موالی نیم در تا ہے اور بلنی کو بیسیم کی قداد ہے تک اپنے در تا ہے اور بلنی کو بیسیم کی قداد ہے کی تا ہے اور بلنی کو بیسیم کی قداد ہے کی تا ہے اور بلنی کو بیسیم کی قداد ہے کی تا ہے اور بلنی کو بیسیم کی قداد ہے کی تا ہے اور بلنی کو بیسیم کی قداد ہے کی تا ہے اور بلنی کو بیسیم کی قداد ہے کی تا ہے اور بلنی کو بیسیم کی قداد ہے کی تا ہے اور بلنی کو بلنی کو بلنی ہے اور بلنی کو بلنی ہے الیک الیک ہو کے تا ہے لیے کی ایک مرز کو ورعظر آرڈینٹس 1980 اور	یکوی کراہا ہول گی ادریا تو مارت حبیب کوی کراہا ہول گی ادریا تو مارت حبیب (CCC-20) کے بطیف ۲۸ کی مزدر ایت میں کاڈائر کیٹر بنے کے لئے ماال ن بی درخان مال کر نے دالے طبق کے بے درخان مال کر تی مال کی تر دادامیدو ایت را کم کر دونان میں ایک نے زیادہ امیدو نیس ایک کم کی مال یک نے زیادہ امیدو نیس ایک کم کی مال یک نے زیادہ امیدو نیس ایک کم کی مال یک نے زیادہ امیدو نیس ایک کم کی دونان میں میں کہ تو کی تر درزار میں ہے کہ رہا دال یک ای سری میں کافنان مر کا ڈون نی بر کے ڈرا امر ردو دیک کا ڈون میں رونز ار میں میں کو مال یک ایک شری مال ایک ای درزار میں کے ڈرا ایک ایک میں ایک نے زیادہ امیدو کے درزار میں رونان میں میں کہا صلاحات از در در میں میں حلوم اسل میں میں ملائی حلوم ایک ای دردان میں در ادرار ایک میں میں کہی حلوم ایک ای دردان میں در ادرار میں در میں میں حلوم ایک ای میرد میں در میں میں ملائی کی میں دار درار میں میں میں حلوم ایک میں میں میں حلوم ایک میں میں میں ملو ایک میں در در دار میں در میں کہ مولا ہوں میں کہی مولا ہوں میں میں میں ملو ایک میں در میں میں ملو ایک میں در میں میں ملو ایک میں میں میں میں مولا ہوں میں میں میں میں ملو ایک میں میں میں میں میں ملو ایک میں در میں میں میں میں میں مورد میں میں میں ملو ایک میں میں میں مولا ہو میں میں میں میں میں میں میں ملو ایک میں	جاا ب مندر ہونے بل مطلو بد متا و بزات کی تیکی تیکر شرکز وذا آف کار پور یف کورنس) ریگر بلیشون (200 (191) منصقوں کی تعداد من من کی رضا مندی ۔ کے امید واروں کا تنسیلی پر وفائل اور فتر کا چھ ۔ نے سے کام کر نے کی رضا مندی ۔ کے امید واروں کی تنسیلی پر وفائل اور فتر کا چھ ۔ اگر مرف ایک کی کی لیگر کی کے لئے بر کری کو ویتر در نے والے تحقی کی کی لیگر کی کے لئے بر کری کو ویتر در نے والے تعنی اور وال کی بلیگر کی کے لئے بر کری کو ویتر در نے والے تعنی اور وال کی تعلی اور وال کر کی اینے تیک اور تیک کی لیگر کی کے لئے بر کری کو ویتر در نے وال نے تیک وول ایک ایک ایک کو ویتر کر کی اینے تیک وول کی ایک کی کو ویتر کر کی اینے تیک وول کی ایک کی کو ویتر کر کی اینے تیک وول کی ایک کی کو ویتر کر کی اینے تیک وول کی ایک کی کو ویک کے ایک رائل کو بر تو دوبا متا بلیڈ نے ار کو تیک کی کر ایک کی وول اطراف کی کار آ مک کار تیک کو ویک کے ایک ویک کی کو ویک کے لئے وال اس وال کی کار آ مک کار تیک کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا	والا لذائر کمبر جو یا کونی اور جو ایکش لز نا جا بتا 2 _ 5 ر بیع تر می شد و _ معایی لز را بط بتا . 2 _ 5 ر بیع تر می شد و _ معایی لز را بط بتا . 2 _ 5 ر بیع تر می شد و _ معایی لز را بط بر ک 2 _ 5 ر بیع تر می شد و _ معایی از رو از بیم کر می 2 _ 5 ر بیع تحت اعلا مید . 2 _ 5 ر بیع تر این این این کر رو بط ک 2 _ 2 می این این این کر رو با را با این کر کی تک ر 2 _ 2 می این این این این کر رو این کا مالان ان 3 _ 2 می این این این این کر رو این کا مالان ان 3 _ 2 می این این این این کر رو با را با این کر می تک ر 3 _ 2 می این این این این کر رو این که اور کر می تو از 3 _ 2 می اور اور و در ح _ محت می رو این که مور این که اور کن تک ما 3 _ 2 می اور اور و در ح _ محت می . 3 _ 2 می اور اور و در مالان کر رو این که مور این که مو این که مور این که	ن از کیلرز کی موجود مد = 2 انتو بر 2014 تا ب کے لیکو کی تلی تلی تلی تونی موجود مد = 2 انتو بر 2014 تا ب کے لیکو کی تلی تلی تلی تلی تلی تلی تلی تلی تلی تل	ابتر کیفرز کا افتاب کیفی کے برد آفت ابتر کیفرز کا افتاب ابتر کیفرز کے انتخاب ابتر کیفرز کے انتخاب ابتر کیفرز کیفیشز ابتر کیفیز ریگویشنز ابتر میلاد کیفاس ابتر میلاد کیفیز کاس ابتر کاس ابتر میلاد کیفیز کاس ابتر میلاد کیفیز کاس ابتر میلاد کیفیز کاس ابتر کاس ابتر میلاد کیفیز کاس ابتر کاس ابتر میلاد کیفیز کاس ابتر
باق شریات ترای ایم کار باغ ی پرد ایس شریات تر ایم کار با ریخ ی پرد ایس می کار ایم کار ایم کار کار ایس می کار ایم کار می کار ایس می کار بی کار ایم کار ایم کار ایم کار ایس پردانی مینی کشیر ریمزا را کارین ایس پردانی مینی کشیر ریمزا را کارین ایس پردانی مینی کشیر ریمزا را کارین ایم کاری کار بی کار ایم کار ایم کاری ایم کاری کاری کاری کاری کارین ایم کاری کاری کاری کاری کارین ایم کاری کاری کاری کاری کاری کارین ایم کاری کاری کاری کاری کاری کاری ایم کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری ایم کاری کاری کاری کاری کاری کاری ایم کاری	۲ فس یا یا تاقم آماد تقصویی رود بر ایل یک سائند که طالق مندرجد ذیل کلگر بیاں شرا انتخابات کے مسطالق مندرجد ذیل کلگر بیاں شرا انتخابات کے نا ایس مندرجد ذیل طریقہ کار کے مطالق برگنا ہے۔ رکن اپنے قدام دون کی ایک امید دار کود۔ میں ایش کار ایس مارد دیک حصل اور ان کی کی میں ایش کار ایس مارد کی حصل اور ان کی کی میں اور کار کی دور مندرجہ بال مارکان کے تعدود نو یا پیز دارش ، اگر کو کی ہوں میں اور کار کی دور مندرجہ بال مارکان کے تعدود نو یا پیز دارش ، اگر کو کی ہوں مارکان کے تعدود نو یا پیز دارش ، اگر کو کی ہوں مارکان کے تعدود نو یا پیز دارش ، اگر کو کی ہوں مارکان کے تعدود نو یا پیز دارش ، اگر کو کی ہوں مارکان کے تعدود نو یا پیز دارش ، اگر کو کی ہوں مارکان کے تعدود نو یا پیز دارش ، اگر کو کی ہوں میں اور کے لیے این دور آمی کی دانیش) میں اور کے مطال کے دیک پارٹر اسال کے دو میں مارد کے لیے این دور کی کی استعمال کر ۔	ینز، 23 ایم فی خان روذ برا پی میں رجز وز ایت سے سطا بق ا کر ای کی دفعہ (3) (15 ا لی ال کو ہوتا ہے)۔ لی ال کو ہوتا ہے)۔ پر کام کر نے کے لئے رضا مندی داخل کر ۔ ایک میں دستیاب 100 دون ڈال سکتا ریمار کس در میان تشیم کر سکتا ہے۔ الدوں کے در میان تشیم کر سکتا ہے۔ الی کر ویک ہیوان کے در ایے AGM میر موبا کی نیس ہی کر سکتا ہے۔ کار موبا کی نیس ہی کہ کہ فرض کے دل کی ما تک سر (حصل ا دم وہ را اسی نیس کی دی ا کی ما تی اس (حصل کی اتعداد) موبا کی نیس میں کہ تعداد) موبا کی ایک موسل ہو نے تک لیے تیں بی ای مار رو مول ہو نے تک لیے تیں بی مار کس ایک او اور میں اور اور اور مرا ایک اور اور اور موسل کے دار میں ایک موسل کر دوشر ال کے مطال اور میں ای کر دوشر ال کے مطال اور کے دار کے مطال اور میں میں بیان کر دوشر ال کے مطال اور	کونتی کرا تا بول گی ادر یا قومارف حبیب بر کونتی کرا تا بول گی ادر یا قومارف حبیب بر کار تا بول کا تقدیم اس کونگر یف کے لیے ناافل نو ایس دوفوں کی تقدیم اس کونگر کی سرقد سر ایس دوفوں کی تقدیم اس کونگر کی سرقد سر تقریب اس کونگر میں ایک نے زیادہ اسیدو تقریب اس کونگر میں ایک نے زیادہ اسیدو نی اس کونگر میں ایک نے زیادہ اسیدو نی اس کونگر میں ایک نے زیادہ اسیدو نی میں ایک کاردادی میں حبیب کے زیاد المیدو کا کونٹ نیم ر میں کونگر میں ایک نے زیادہ اسیدو کا کونٹ نیم ر کا کونٹ نیم ر کا کونٹ نیم ر کا کونٹ کی ما میں کونگر استی اور اسیدو کے زار امر کردو دیک اکا ڈنٹ میں راد دار کونگر میں کونگر میں معاد مان دار کی دار میں میکولیش در نے دار ادیم ر کی دار میں میں معاد مان دار کی دار میں میکولیش در نے دار ادیم ر کی دار میں میں معاد مان دار کی دار میں کونگر میں ایک راد دیم کی اسورت میں جنوار دار میں کر ایک شیر ہولار دیم کر اسی کر میں ایک کو میں میں معاد ای دار میں میں میں میں میں دار دیم کی اسورت میں	 با ا - مندرجة فی طلح الدوستاه برات تینی تکریز کرد و ذات کار بوریت گردش) بیگولیشور (2010 (1911) ت منصق می که تعداد ا منصوری که تعداد ا میر دارد را کانتسیلی پر دفائل اور فتر کا پید - ا میر دارد را کانتسیلی پر دفائل اور فتر کا پید - ا میر دارد را کانتسیلی پر دفائل اور فتر کا پید - ا میر دارد را کانتسیلی پر دفائل اور فتر کا پید - ا میر دارد را کانتسیلی پر دفائل اور فتر کا پید - ا میر دارد را کانتسیلی پر دفائل اور فتر کا پید - د نیا داملی قانون ، آور ایر ا میر کی کی گافتی ک میر کار با میر کی کی کار کانتر که در ا میر دارد کان میر کار کی کار کانتر که در ا میر دارد کان میر کار کی کو متی ا میر زیر داری کی کار کانتر کار کار کار ا میر کار این کو دون المران کار میکی کار تک کار کار کان ا مینتر بادرز دید یا چانو می کر میلی کے در کار کان ا مینتر بادرز دید یا چانو می کر میلی کار تک کار المات کے میں کار کی کو دون المران کی تک تک تک تک تک میر کار این کو دون المران کی تر مالی کار تک کار تک کا کار کار کی کو دون المران کار تک کار تک کار تک کا کار کار کی کو دون المران کار تک کار تک کا کار کار کی کو دون المران کی تر مان کار تک کا کار کانی کار دون کی کار تک کار تک کار تک کا میر کار تک میر میر کار تک کار تک کار تک کا کار کار کان کار تک کا کار کار کار تک کار تک کار تک کا کار کار کار کار تک کار تک	والا ڈائر کیٹر ہو یا کوئی اور جو ایکٹی لڑنا جا چاہتا۔ 2 <u>کر ز</u> سیٹر تم شدو <u>م</u> صلاق لرند کیٹی لڑنا جا چاہتا۔ 2 <u>کر تر سیٹر تم شدو ک</u> صلاق لرند کیٹی لڑک بیٹے 2 <u>کر تکویلیٹن (د) می</u> تی کو روز کی کور کی بی 2 <u>کر گولیٹن (د) می</u> تی کو روز کی کا اطان 2 <u>کر گولیٹن (د) می</u> کو مورت میں)۔ 2 <u>کر ڈیلٹی شیز کی کو مورت میں</u> ۔ 2 <u>کر دون شد (بیلی یا روز است کی دائل</u> کر 3 <u>کا تعاد اس کیٹر کو مح ما سائیس (د)</u> 3 <u>کا تعاد اس کیٹر کو مورت میں</u> ۔ 3 <u>کا تعاد اس کیٹر کو مورت میں</u> کو مور 3 <u>کا تعاد اس کیٹر کو مورت میں</u> کو مور 3 <u>کا تعاد اس کیٹر کو مورت میں کوئیز (د)</u> کو از 3 <u>کا تعاد اس کیٹر کو مورت میں کوئیز ایک را</u> 3 <u>کا تعاد اس کوئی میں ما تو کوئی ایک کے اس کوئی مور</u> 3 <u>کی</u> تو کا را دائیل میں موٹ موں میں کوئیز ایک را 3 <u>کی</u> تو کا را دائل کی مان فریڈ موس میں کوئیز را کے اس 3 <u>کیٹوں نے تام مطلو یہ مطور ا</u> اور در 3 <u>کی</u> میں <u>مار کوئی میں میٹر کوئی کا می</u> کا مور 3 <u>کیٹی کوئی موں میں میٹر ایک را مو</u> 3 <u>کی</u> میٹر تو تال ادا میکی مان کی کا می توئی اور 3 <u>کیٹی کوئی کوئی کوئی کی مو</u> 3 <u>کیٹی کوئی کوئی کی مولیز می</u> کا مو 3 <u>کیٹی کوئی کوئی کوئی کی کوئی مو</u> 3 <u>موٹی کو</u> کوئی کی کوئی کوئی مولیز مولی موئی مو 3 <u>کیٹی موٹی مو</u> میں موٹی کو مور 3 <u>کیٹی موٹی مو</u> 3 <u>موٹی مو</u> کوئی مو می کوئی مو 3 <u>کیٹی موٹی موٹی مو</u> 3 <u>کیٹی موٹی موٹی موٹی موٹی مو</u> 3 <u>موٹی موٹی مو</u> 3 <u>موٹی موٹی موٹی مو</u> 3 <u>موٹی موٹی موٹی موٹی موٹی مو</u> 3 <u>موٹی مو</u> 3 <u>موٹی موٹی مو</u> 3 <u>موٹی مو</u> 3 <u>موٹی موٹی مو</u> 3 <u>موٹی موٹی مو</u> 3 <u>موٹی موٹی مو</u> 3 <u>موٹی مو</u> 3 <u></u>	ذائر کبروی موجوده د. 2017 تور 2014 کردی اور ۲۰ ب کے لیے کو تی تی تی موجود دینا تر یو نے زی کی تی تی تی تی موجود دینا تر یو نے کنی کردی تی	ابتر کیفرز کا اتلا کیفی کے برذ آف ایز کیفرز کا اتلا ایز کیفرز کا اتلا ن کل بخیا بردگا ایز کیفرز کا اتلا میز بردگار این کیفرز کیف این کیفرز کیف این کیفرز کیف این کیفرز کیف این کیفرز کیفرز این کیفز این کیفرز این کیفرز این ک
باق شریات ترای ایم کار باغ ی پرد ایس شریات تر ایم کار با ریخ ی پرد ایس می کار ایم کار ایم کار کار ایس می کار ایم کار می کار ایس می کار بی کار ایم کار ایم کار ایم کار ایس پردانی مینی کشیر ریمزا را کارین ایس پردانی مینی کشیر ریمزا را کارین ایس پردانی مینی کشیر ریمزا را کارین ایم کاری کار بی کار ایم کار ایم کاری ایم کاری کاری کاری کاری کارین ایم کاری کاری کاری کاری کارین ایم کاری کاری کاری کاری کاری کارین ایم کاری کاری کاری کاری کاری کاری ایم کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری ایم کاری کاری کاری کاری کاری کاری ایم کاری	۲ فس یا یا تا هم آماد تقصویی رود بر ایل یک سا تین کسطالق سند رجد ذیل کنگر بیاں شرا اختماعات کے نیسالی سند رجد ذیل طریقہ کار کے سطالق برلیک نیس ایل سی سند رجد ذیل طریقہ کار کے سطالق برلیک ج - رکن اپنی قدام ووٹ کی ایک امید وارکود _ ج - رکن اپنی قدام ووٹ کی ایک امید وارکود _ ای سی ایڈر اس بیل رود میں ایک ایل امید وارکود _ کی با کار سی ایڈ راز کی موسلیا فرائی کی ; کی با کار سی ایل میں ایک ایک امید وارکود _ کی با کار سی بیل میں ایک رود مند رجہ بال کی با کار سی ایک رود میں ایک رود میں ایک رود میں کی رود ایک سی ایڈ راز کو بی ایک رود میں میں کے ایک ورد ایک رود میں ہو را کی رود کا کو بی ہوں ۔ کی رود را کو بی اور روم کی دارش ، ارکو کی ہوں ایک رود را میں ہو رود رود میں ہو رود را کو بی ہوں ایک رود را میں ایک رود را میں میں کر ہے کے ایک ورد کی کی رود را میں ایک رود را میں ایک رو کی در در کو بی اور روم کی دارش اس کر رود را کا دی استعمال کر ۔ کے ای دو تک میں پال میک سید کی کار سی استعمال کر ۔ کے ای دو تک می پال میں میں کی سی کا رو تکا ایک میک ایک ار کی دیکا روم استعمال کر ۔	ینز، 23 ایم انی مادر دور برای یی می رجز وز ایت تر مطابق ا کی دفته (3) (5) 15 ایت تر مطابق ا کی کی دفته (3) (5) 15 لی الا و برتا ہے)۔ پکام کرنے کے لیے رضا مندی داخل کر اروں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ اروں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ مویکل نیم کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ الدوں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ مویکل نیم کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ مویکل نیم کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ مویکل نیم کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ مویکل نیم کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ مویکل نیم کے درمیان کو میں کے حال درمین مانے اور کمینی کو یکی اور میں اور ایک میں کو میں کے حال درمین مانے اور میں کی تعداد میں ایک ایک میں اور میں میں میں کر درمین اور اور میں میں ایک میں کر میں کے درمین میں میں اور کی تو اور میں میں میں میں کر درمین میں میں میں اور کر میں کی میں کے مال میں میں میں میں کر دور میں	یکونتی کراتا ہوں گی اور یاقو مارف حسیب بر کار تی کر انا ہوں گی اور یاقو مارف حسیب بر کار تا میں کا دائر کیٹر بنے سے لیے مالال نے کار اسروف کی تشیم اس کیٹر کی سے تر کے انا ماغ جار (مرف کیٹی سے اس کیٹر کی <u>تر تحد مالا میں</u> جار (مرف کیٹی سے ایک اور دائر کیٹر سے طو تشیم اس کیٹری میں ایک سے زیادہ امید د میں اس کیٹری میں ایک سے زیادہ امید د کا کا زین میں میٹن کے ریا انگام کا دین نیز دین کی کا دودان میں صد کے تکم کا دین کیٹری مادا دی میں کی سے ماد دار کا دین میں میٹن کے در استار کا دین میں میٹن کا در انگام کا دین میں میٹر مواد کی میں معلومات از دار در ایک کا دار کی مالا کا دن میں براد دار ہو میں ریکونی در کا دار معالی کا میں ایک اس در میں ایک میں ماد دار کا دار کوئی کا ایک میں معلومات از دار میٹر مواد کی مالو کی تی میں میٹر مواد کی میں دار دار میٹر مواد کی مالو کی تی میں دار دار کا دار کا دی میں میٹر مواد کی معدومت میں دیک مور میں میں دیکر دار دار دیک میٹر مواد رائد کی مالو کی تی میں دار دار میٹر مواد کی میں میں میٹر مواد کی میں میں دار دار میٹر مواد کی میں میں میٹر مواد کا میں میں میلو کی میں دیکر دیکر دار دیک میں دار دیک میٹر مواد رائد کی دار میں میٹر مواد کی میں دیکر دیک میں دار دار میٹر مواد کی کی دیک میں میکر دیکر دار میں میکر دیکر دار دیک میں دیکر دیکر دار دیک میں دیکر دیکر دیک میں دیکر دیکر دیکر دیک دیکر دیکر دیکر دیکر	جا۱ صندر حدید این مطلور حتاد برات تین تکریم دیرک وذات کار پور یت کورش) ریم لیشتور (2010(19) منصقول ی تعداد منطق کی تعداد منطق کی تعداد منطق کی تعداد منطق کی تعداد میل کی تعداد تیس ساح مرکز کی مطامع کی - تیس ساح مرکز کی مطامع کی - منطق ماطاق قانون بقر من کی ایک کی تحق مین منطق ماطاق قانون بقر کار کی کی تحق مین منطق ماطاق تا تون بقر کار کی میل کی - مرکز داشتی میل کی کی تحق مین مرکز ماشی میل کی کی تحق مین مرکز ماشی میل کی کی تحق مین مرکز ماشی مین کی کی ماسید وارک می مین مرکز ماشی مین کی کر ملاح می میل کی تحق مرکز ماشیر میل کی کی تحق مین مرکز ماشیر میل کی کی میل کی میل کی تحق مرکز ماشیر میل کی کر میل کی تحق مین مرکز ماشیر میل کی کر میل کی تحق مین مرکز ماشیر میل کی کر ماشیر میل کی کر ماشی می مرکز کی تعداد می کی دونوں اطراف کی کار تعدیک میل کی کی میل کی کر واقی میل میل کی کر میل کی کو تک میل کی کی میل میل میل کی کر میل کی تحق مرکز کی تعداد دادی کر میل میل میل کی کر ماشی کی تک میل میل کی کی میل میل میل میل کی کر ماشی کی تک میل میل کی که میل	والا لذائر کمتر جو یا کونی اور جو ایتخش لا نا جا بتا <u>2 کرد بع</u> ترم شد می سال این لدایت نیز (۲) <u>2 کرد بع</u> ترم شد می سال این لدایت نیز (۲) <u>2 کرد بع</u> ترم شد می سال این لدایت نیز کر بخ <u>2 کرد</u> تحقت اعلام ہے۔ <u>2 کرد میلائین (1) کرد می کی مراحل</u> کے <u>2</u> <u>2 کرد میلائین (1) کرد می کی مراحل</u> کی <u>2</u> <u>2 کرد میلائین (1) کرد می کی مراحل کی کرد کی کی ترکل بخ</u> <u>2 کرد میلائین (1) کرد می کی مراحل کی کرد کی کی ترکل بخ</u> <u>2 کرد میلائین (1) کرد کی کی توجب این کی کرد کی کی کرد کی کے ترکل بخ</u> <u>2 کرد میلائین (1) کی ترک</u> کی راحل کی ارکل بختی راحل کی کرد <u>2 کرد میلائین (1) کی تحق مراحل کی کی تحق راحل کرد این تعداد</u> <u>2 ترکل می کی تحق مراحل کی ترکل بختی مراحل کی مراحل کی تعداد</u> <u>2 در تواحل کی می تحق مراحل کی ترکل بختی مراحل کی تعداد</u> <u>2 در تواحل کی می تحق مراحل کی تحق مراحل کی تعداد</u> <u>2 در تواحل کی مراحل کی تحق مراحل کی تعدید</u> <u>2 در تواحل کی مراحل می تحق مراحل کی تحق مراحل کی تو</u> <u>2 در تواحل کی مراحل کی تحق مراحل کی تحق مراحل کی تو</u> <u>2 در تواحل کی ترکن مراح مراحل کی تحق مراحل کی تعدید</u> <u>2 محمل کی تو</u> <u>2 محمل نی تو نی مراحل مراحل کی تحق مراحل کی تحق <u>2 می راد کرد می مراحل کی تحق مراحل کی تحق مراحل کی تو</u> <u>2 محمل نی تو نی تو</u> ایل دار نی تحق مراحل کی تو <u>2 محمل نی تو نی کی مراحل کی تحق مراحل کی تو</u> <u>2 محمل نی تو نی کی مراحل کی تو</u> مراحل کی تو <u>2 محمل نی تو نی کی مراحل کی تو</u> کی تو تو کی ایل تو تو کی تو تو کی تو تو کی تو تو تو کی تو </u>	ذائر کبروکی موجوده د. 2017 تو بر 2012 کار ب کے لیے کو تی تی تحقیق ، چا چاہ در بنائر ہونے ب کے لیے کو تی تحقیق ، چا چاہ در بنائر ہونے ب کے لیے کو تی تحقیق ، چا چاہ در بنائر ہونے فی تحقیق ، چا چاہ در بنائر ہونے فی تحقیق ، چا چاہ در بنائر ہونے فی تحقیق ، چاہ تحقیق ، چاہ تحقیق ، چاہ دور بنائر کی تحقیق ، چاہ ، چاہ ، چاہ تحقیق ، چاہ ، چھی ، چاہ ، چھی ، چ	ابز کیفرز کا اتخاب ابز کیفرز کا اتخاب ابز کیفرز کی اتخاب ابز کیفرز کی اتخاب ابز کیفرز کی اتخاب ابز کیفرز کی اتخاب ابز کیفرز کیفرز ابز کیفرز ابز کیفرز کیفرز ابز کیفرز ابز کیفرز کیفرز ابز
باق شریات ترای ایم کار باغ ی پرد ایس شریات تر ایم کار با ریخ ی پرد ایس می کار ایم کار ایم کار کار ایس می کار ایم کار ایم کار می ایک ایس می مار یا فیمل کر ایم کار ایم کار ایم ال کریں۔ ایس پر دان می کار بی کار ایم کار ایم کار ایرا ایس پر دان می کار بی کار ایم کار ایم کار ایرا ایس کار می کار بی کار ایم کار ایم کار ایرا ایس کار کار ایم کار ایم کار ایم کار ایم کار ایم کار ایم ایس کار می کار ایم کار ایم کار ایم کار ایم کار ایم ایس کار می کار ایم کار ایم کار ایم کار ایم کار ایم ایم کار می کار ایم کار ایم کار ایم کار ایم کار ایم ایم کار می کار ایم کار ایم کار ایم کار ایم کار ایم کار ایم ایم کار می کار ایم کار	۲ فس یا یا تا هم آماد تقصویی رود بر ایل یک سا تین کسطالق سند رجد ذیل کنگر بیاں شرا اختماعات کے نیسالی سند رجد ذیل طریقہ کار کے سطالق برلیک نیس ایل سی سند رجد ذیل طریقہ کار کے سطالق برلیک ج - رکن اپنی قدام ووٹ کی ایک امید وارکود _ ج - رکن اپنی قدام ووٹ کی ایک امید وارکود _ ای سی ایڈر اس بیل رود میں ایک ایل امید وارکود _ کی با کار سی ایڈ راز کی موسلیا فرائی کی ; کی با کار سی ایل میں ایک ایک امید وارکود _ کی با کار سی بیل میں ایک رود مند رجہ بال کی با کار سی ایک رود میں ایک رود میں ایک رود میں کی رود ایک سی ایڈ راز کو بی ایک رود میں میں کے ایک ورد ایک رود میں ہو را کی رود کا کو بی ہوں ۔ کی رود را کو بی اور روم کی دارش ، ارکو کی ہوں ایک رود را میں ہو رود رود میں ہو رود را کو بی ہوں ایک رود را میں ایک رود را میں میں کر ہے کے ایک ورد کی کی رود را میں ایک رود را میں ایک رو کی در در کو بی اور روم کی دارش اس کر رود را کا دی استعمال کر ۔ کے ای دو تک میں پال میک سید کی کار سی استعمال کر ۔ کے ای دو تک می پال میں میں کی سی کا رو تکا ایک میک ایک ار کی دیکا روم استعمال کر ۔	ینز، 23 ایم فی خان روز برا پچی میں رجز وز ایت تر مطابق ا کی دفتہ (3) (5) 15 ایت تر مطابق ا کی کی دفتہ (3) (5) 15 لیے الا کو ہوتا ہے)۔ پکا م کرنے کے لیے رضا مندی داخل کر اروں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ اروں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ مویک نیر ا کے 2014 مور ڈیٹل ہی ڈی مویک نیر ا کے 2014 مور المیشلہ ہی ڈی الدوں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ مویک نیر ا کے 2014 مور المیشلہ ہی ڈی دیک روز اعدین اور تین کی تعداد کی مطابق میں المیشر دیش ا دار کیوں کو تعداد کی داخل کر المیک الکے الکے الکے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ مویک نیر کے درمیان تقسیم کی خانہ ہی ڈی درموں میں ایک نیر دیش دار میں کہ دار دین مانے اور کیوں کو تعداد ہی کی دائی ہی دائی کے مطابق المیک الکے مطابق میں میں ایک کے درمیش میں ایک میں میں ایک میں میں ایک درمین میں میں در مطابق میں ایک درمین میں میں میں میں کہ درمین میں میں در مطابق میں میں کے درمین میں میں در میں میں کہ درمین میں میں درمین میں میں درمین میں میں میں درمین میں میں میں دیکھیں میں میں میں درمین میں میں میں میں میں میں میں درمین میں میں میں میں میں میں میں میں درمین میں میں میں درمین میں میں درمین میں میں میں میں دیکھیں درمین میں میں میں میں میں درمین میں میں درمین میں میں میں میں درمین میں میں درمین میں میں میں درمین میں میں میں درمین میں درمین میں کے درمین میں درمین میں میں درمین میں درمین میں درمین میں درمین میں درمین میں کر درمین میں درمین میں کر درمین میں درمی درمین می درمین میں درمین میں درمین میں	یکونتی کراہی کو ادریاتی مادریاتی مادف حسیب بر (CCG-20) کے ریڈیکٹن ۲۸ کی منرور ایس میں کا دائر بکٹر بنے سے لیے مالال ایس دونوں کی تشیم اس کیلگری تے دیا جر (مرف کیلی کے ایس ورت دیگر، رکن الر تشیم اس کیلگری میں ایک نے دیا دوامیدو تشیم اس کیلگری میں ایک نے دیا دوامیدو تشیم اس کیلگری میں ایک نے دیا دوامیدو بر ایس کیلگری میں ایک نے دیا دوامیدو تشیم اس کیلگری میں میں کیز مند ارا میں اس کی کا مرد شکم بر کا تا میں معلوان " ایس کیلر میں کہا تین میں دوران میں میں کے درا میں در در ادوان کی ماد دونی میں میں معلوان ایس دوران میں تشیم دولا دیک میں دوران میں دور شرول ایک میں کہ میں دوران کی دور شرول ایک میں کہ میں کی مورت میں ایک میں کہ میں کہ میں کہ موان کے دوران کر دور دار میں میں کی مادوں کی میں دوران کے دور شرول	جا۱ صندر وی زی طلو بد حتاد یز ات تیکی تحریم کرد وذا تس کار پوریف کورنس) ریگولیشور (2010 (1911 منصقوں) ریگولیشور (2010 (1911 منصقوں) تعداد منصور ارد ما تعندی ۔ لی تعداد اور ان تلیش کی وفائل اور فتر کا چھ ۔ لی تعداد اور ان تلیش کی وفائل اور فتر کا چھ ۔ من خاط قالی قادن ، او اعد دخترا ایو کی تکی قتن ت من خاط قالی قادن ، او اعد دخترا ایو کی تکی قتن ت من خاط تی کار از کار کی تر کی لی کر تک کے لیے من کا جاتا ہے کو کی کی کار کو متر من کا جاتا ہے کو کی کی کر کا کو متر من کا جاتا ہے تک کی کی کر کی کو متر من کا جاتا ہے تک کی کی کر کی کو متر من کا جاتا ہے تک کی کی کر کی کو متر من کا جاتا ہے تک کی کی کر کی کو متر من کا جاتا ہے تک کی کی کر کی کو متر من کا جاتا ہے تک کی کی کر کی کو متر من کی جاتا ہو اور کی کی کی کو میں کر کا ہو ۔ مندی کا جاتا ہے تک کی کی کر کی کو متر مندی کا جاتا ہے تک مورف کی امید وارک و متر مندی کا مورف کی امید وارک و میں کے اور مندی کی کہ تر میں کہ کہ	والا ڈائر کیٹر ہو یا کوئی اور جو ایکٹر لڑ تا چا بتا۔ <u>2 کے در بیع</u> تر می شد می ساما پن لیڈیڈیز (۲) <u>2 کیڈر بیع</u> تر می شد می ساما پن لیڈیڈیز (۲) <u>2 کیڈر بیع</u> تر می شد می ساما پن لیڈیڈیز (۲) <u>2 کی</u> ت تادار - 9 کیٹر سر ایک ادر کری بی <u>2 کیڈیڈیز ایک طریق</u> کی اور میا تندی کا املان <u>2 کیڈر وا</u> کا طریق کار اور انتخاب) ریڈولیشز (۲) <u>2 گیڈر وا</u> کا طریق کار اور انتخاب) ریڈولیشز (۲) <u>2 گیڈر وا</u> کا طریق کار اور انتخاب) ریڈولیشز (۲) <u>2 میڈر کی ک</u> ے دستیاب ووٹول کی تعداد واطن آ <u>2 میڈر کی ک</u> ے دستیاب ووٹول کی تعداد واطن آ <u>2 میڈر کی ک</u> ے دستیاب ووٹول کی تعداد واطن آ <u>2 میڈر کی ک</u> ے دستیاب ووٹول کی تعداد واطن آ <u>2 میڈر کی کے دستیاب ووٹول کی تعداد وا</u> <u>2 میڈر کی کے میڈیز انٹر پر و یے مراسا تی ہر اور اور اور</u> <u>2 میڈر کی کی تو میڈیز انٹر پر و یے مراسا تی ہر کی لو</u> <u>2 میڈیز ان کر وہ حماد کی میڈیز انٹر پر و یے مراسا تی ہر کی لو</u> <u>2 میڈیز ان کی میڈیز انٹر پر و یے مراسا تی ہر کی لو</u> <u>2 میڈیز ان کی موان کی میڈیز انٹر پر و یے مراسا تی ہر کی لو</u> <u>2 میڈیز ان کی مورت می کی تیز انٹر پر و یے مراسا تی ہر کی لو</u> <u>2 میڈیز ان کی مورت می تین</u> کے انٹیز ر <u>2 میڈیز ان کی مولو ان کی میڈیز کی کی تعدید کی تیز انٹر ہر و یے مراسی کا میڈیز کی کے تعدید کی تیز انٹر پر و یے مراس کا دور <u>2 میٹیز انٹر پر و یے مران کی تی میڈیز کی کی تیز میٹر ہو</u> <u>2 میڈیز ان کی مو</u> <u>2 میڈیز کی می تو میڈیز کی می تعدید کی تیز انٹر پر و یے مراس کی تو می وان کی تو می میڈیز کی کی تو تی کی وان کی کر می <u>2 میڈیز کی می تو تو کی مورت می تیز کی کی تو کی تو می میڈیز کی کی تیز رو مو</u> <u>2 میڈیز کی می تو کی مورت می تیز کی کی تو می تو می تو می مو</u> <u>2 میٹیز کی می تو تو کی مورت می تیز کی کی تو می میڈیز کی می تو کی میڈیز کی می تو کی مورت می تیز کی کی تو می مو <u>2 میٹیز کی میز کی مو</u> می تو کی مو تو کی مورت می تیز کی کی تو کی والی تو می تو کی کی تو کی مو تو تو می موٹر مو تو کی مو تو کی کی تو کی مو تو کی کی موٹر مو تو تو کی مو تو کی کی تو کی مو تو کی کی تو کی موٹر مو تو تو کی مو تو کی کی تو کی مو تو کی کی تو کی موٹر مو تو کی کی موٹر کی مو تو کی کی تو کی موٹر مو تو کی کی مو تو کی کی موٹر مو تو تو کی مو تو کی کی تو کی کی تو تو کی کی تو کی کی تو کی تو تو کی کی تو کی دو تو تو </u></u></u>		ابز کیفرز کا اتخاب تبخی کے برد ذات بز کیفرز کے انخاب ابز کیفرز کے انخاب ابز کیفرز کے انخاب ابز کیفرز کے انخاب ابنا کیفرز کی انخاب ابنا کیفرز کیفرز ابنا کیفرز ابنا کیفرز کافرز ابنا کیفرز ابنا کیفرز
با قى ئى ا ب تى ا ئى كار با بى دور يە دە كە قى ئى كى كى نىاد بى ا بىادەت دال كى تەيد. كە تى كە ئى دى كەرد كا لۇش: كە كى كى نىاد بى ا بادى كەرت كى بى شار ما قىلى كرا بى كەرت كى ئى بى دە تى كى كى ئىر دىرا ركورالا نە ئەرىك كە يى بى كى ئىر دىرا ركورالا نە ئەرىك كە يى بى كى ئىر دىرا ركورالا نە ئەرىك كە تاب را قىلى كى تەيد. كەردال 4، كە تە تەر دى يا يې دو تكى يى تەر كى كى باد تە بوكى - كى باي جە تاد كى دى يە تەر يە كى يى تەر كى كى باي دى تەر كە يى تەر كەردال 4، كە تەر يە يى دۇ تەر يا كى دو تكى يى تەر كى كى بار دە تەركى يى تەر كى بى بى دە تەر كى دە تى يى تەر تەر كى بى بى دە تەر كى دە تەر يى تەر كى بى بى دە تەر كى دە تى يى تەر تەر كى بى بى دە تەر كى دە تى يى تى تەر كى بى بى جەر دى بى دە تى يى تەر كى بى بى دە تەر كى دە تى يى تى تەر كى بى بى جەر دى بى دە تى يى تەر كى بى بى جەر دى بى دە تى يى تەر كى بى بى جەر دى بى دە تەر يى يەر يى تەر كى بى بى جەر بى كى دە تى يى تى تى تى تەر كى تا بى بى تەر بى تەر تەر تەر تەر تەر كى بى بى جەر بى كى دە تى تى تى تەر كى بى بى جەر بى كەر بى كى تى تى تەر كى تەر بى تەر تەر كى تەر بى تەر تەر تەر تەر تەر تەر تەر كى تەر بى تەر	۲ فس یا یا تا هم آماد تقصویی روز ، کر ایتی کس انتخابات کے کسطالق سندرجوذیل کینگر بیاں شرار ایتی کس انتخابات کے نی سالق سندرجوذیل کینگر بیاں شرار ایتی کس انتخابات کے نی سالق سندرجوذیل طریقہ کار کے سطان میر کی ج - رکن ایت قام دون کی ایک امید دارکرد۔ بی سالیڈر اس بعلی موالد ردی حوصلیا فرائی کی ; ما ملک سالیڈر اس بعلی موالد ردی حوصلیا فرائی کی ; کس مع یا فتگان سے التما تی ج کہ دومندرجہ بالا کی باکس ایڈر اس مالتما تی ج کہ دومندرجہ بالا کی باکس سالیڈر اس مالتما تی ج کہ دومندرجہ بالا کی باکس سالیڈر اسی مالی موالی بیا ہے ۔ مارکان کے تعدد ڈیلی بیز دارش ، اگر کوئی ہوں ایک سالوڈ (را موتی اور آم کی والی چی بین (یا تھا کہ یہ کا کی دو تک اسی استمال کہ ہوئی ہوں استعمال کر ۔ کے ای دو تک یا پول سالی کی استعمال کہ ۔ دو ستیا ب میں ۔	ینز، 123 ایم انی ماد دود بر ایم یکی رجز وز ایت کر مطابق ا کی کی دفعہ (3) (1933 کے ایت کر مطابق ا کی کی دفعہ (3) (1953 کے لیے الا کو ہوتا ہے)۔ پکام کر نے کے لیے رضا مدی داخل کر اروں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ اروں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ اروں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ الدوں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ مویکل نیم کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ مویکل نیم کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ درمیان تقسیم کر سکتا ہے۔ درمیان تا ہے درمیان کو تعلیم کی دائل درمیان کے درمیان کو میں کے حال درمی میں میں کی دول ہو نے تک ایے درمیان کی داخل کی مطابق میں میں میں میں کہ درمین کی دائل ہے۔ میں میں میں کہ درمین کے درمین میں دائل کہ مطابق میں میں کہ درمین میں کہ دول در کے درمین میں دائل مطابق میں میں کہ درمین میں کہ درمین میں میں درمین میں میں میں دیمان مطابق میں میں کہ درمین میں کہ درمین میں میں کہ درمین میں میں درمین میں میں درمین میں میں درمین میں دیمان مطابق میں میں میں کہ درمین میں کہ درمین کے میں میں کر درمین میں میں درمین میں میں دیمان میں میں کہ درمین میں میں درمین کہ درمین کے مطابق کے درمین کہ دیمان میں دیمان کہ درمین کے میں کے درمین کہ درمین کے درمین کہ درمین کے در	یکویتی کراتا ہوں گی اور یاقو مارف حسیب بر ایس کی کویتی کر انہوں گی اور یاقو مارف حسیب بر (CCC-20) کے ریکولیشن ۲۸ کی مفر دور ایس دور کو ایک تشیم اس کیلگری تی اور اور ایکو سر طور نیس اس کیلگری میں ایک نے دار داوا تریکر سرطور نیس اس کیلگری میں ایک نے داردادا میدو نیس میں کیل مادوان میں صدید سی کمین سادوں اسید اس اس کی کا دروان کی میں صدید اس میدوں میں میدون نیس کیل مادون کی مادوں میں میکن مادوں اسید اس کی کی دروان کی مادوں میں میکن مادوں اسید میکون ریکولیشور ز کے منابط کی کے میدوں میں راددار ایک ایک کی درون کی مادوں میں میکون مادوں میں میدوں میں داردار میں ایک کی مادوں کی مادوں میں میدوں میں دور مادوں دیکی درون مادوں اسید میں دیک کی مادوں میں میکون مادوں میں میدوں میں دور مادوں ایک مردوں میں دور میکر دور ایک مادوں میں دور میکر دور دور میں میکون کی درون مادوں میں دور میکر دور دور میں میکون کی مادوں میکر دور دار میں دور میکر دور دور میک میکر مادوں میکر دور دور میکر میکر دور دور میک میکر دور دور میک میکر مادوں میکر دور دور میک میکر دور دور میکر دور دور میکر دور دور میکر دور دور میک میکر دور دور میک میکر مادوں دور میکر دور دور میکر دور دور میک میکر دور دور میکر میکر دور دور کیکر میکر دور دور میکر دور دور دور میکر دور دور دور میکر دور دور دور دور میکر دور دور دور دور میکر دور دور میکر دور دور میکر دور دور میکر دور دور دور میکر دور دور دور دور دور میکر دور دور دور	جا۱ صندر وی زی طلو بد حتاد یز ات تیکی تحریم کرد وذا تس کار پوریف کورنس) ریگولیشور (2010 (1911 منصقوں) ریگولیشور (2010 (1911 منصقوں) تعداد منصور ارد ما تعندی ۔ لی تعداد اور ان تلیش کی وفائل اور فتر کا چھ ۔ لی تعداد اور ان تلیش کی وفائل اور فتر کا چھ ۔ من خاط قالی قادن ، او اعد دخترا ایو کی تکی قتن ت من خاط قالی قادن ، او اعد دخترا ایو کی تکی قتن ت من خاط تی کار از کار کی تر کی لی کر تک کے لیے من کا جاتا ہے کو کی کی کار کو متر من کا جاتا ہے کو کی کی کر کا کو متر من کا جاتا ہے تک کی کی کر کی کو متر من کا جاتا ہے تک کی کی کر کی کو متر من کا جاتا ہے تک کی کی کر کی کو متر من کا جاتا ہے تک کی کی کر کی کو متر من کا جاتا ہے تک کی کی کر کی کو متر من کا جاتا ہے تک کی کی کر کی کو متر من کی جاتا ہو اور کی کی کی کو میں کر کا ہو ۔ مندی کا جاتا ہے تک کی کی کر کی کو متر مندی کا جاتا ہے تک مورف کی امید وارک و متر مندی کا مورف کی امید وارک و میں کے اور مندی کی کہ تر میں کہ کہ	والا ڈائر کیٹر ہو یا کوئی اور جو ایکٹر لڑ تا چا بتا۔ 2 _ ز_ بے تر می شد می ساما بن لہ سلیت نہ اور کیٹر () 2 _ ز_ بے تر می شد می ساما بن لہ سلیت نہ کہ کریا ہے 2 _ تر بی تر می شد می ساما بن لہ بر کہ بی کہ رکھنے کے 2 _ تر کیٹر وال علم رہند کا را سامی ہے۔ 3 ر کیٹر وال علم رہند کا را وال تی اور کی بی کہ را کھنے کے 3 ر کیٹر وال علم رہند کا را وال تی اور کی بی کہ را 3 میڈر کی کہ کری کی میں سی ک ۔ 3 میڈر کی کہ کی کہ موسو سی ک ۔ 3 میڈر کی کہ کہ میڈی ہی کہ اور کی بی کہ را طان اور کہ اور کی بی کہ را طان کہ اور کہ کہ کہ وہ کہ کہ اور کہ کہ کہ را طان کہ اور کہ کہ کہ را طان کہ کہ را کہ کہ کہ کہ کہ را طان کہ کہ اور کہ کہ کہ را طان کہ کہ کہ کہ را کہ کہ کہ را طان کہ		ابر کیفرز کا تقاب تبخی کے برد ذات ق بر کیفرز کے انقاب ابر کیفرز کیفرز ابر کیفرز ابر کیفرز کیفرز ابر کیف
باتر شراب تر ایم کار رق ی بر ور ور ایم کار رق ی بر ور ور ایم کار میں ای کار رو اور ایک کار اور کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا	تف یا یا تا هم اور تنگستوی روز ، کر اپنی ک سا تخد کسطالق سندرجه زیل کنگر بیاں شرا اختابات کے نیسالق سندرجه ذیل کنگر بیاں شرا اختابات کے نیسی کے سرکن مندرجه ذیل طریقہ کار کے مطابق برگن ہے۔ رکن اپنے قدام ووٹ کی ایک امید وار کود ۔ ہے۔ رکن اپنے قدام ووٹ کی ایک امید وار کود ۔ ہے۔ رکن اپنے قدام ووٹ کی ایک امید وار کود ۔ میں ایڈ تکان سے التمان ہے کہ وہ مندرجہ بال ط. adnana@jcl.com.pk بال کے ایک امید وار کود ۔ ہے۔ رکن اپنے قدام ووٹ کی ایک امید وار کود ۔ میں ایڈ تکان سے التمان ہے کہ وہ مندرجہ بال کا بائیں ایک رہا ہے ۔ میں ایڈ تکان سے التمان ہے کہ وہ مندرجہ بال کی باؤل کی بائیں ایک ہوئی بیل میں ایک بائی بیل کے ۔ میں ایک کو ایم رکن کی بائی بیل ہے ۔ کے ایک روز (کو تی اور تم کی والی بیل ہے ۔ کے ایک روز (کو تی اور تم کی والی پیل ایک بود) کے ای دونک یا پیل میں ایک رائی کا جاتا ہے ۔ میں ایک روز کی بائی ایک روز کی ایک رائی ایک اور کی ایک روز رائی کی روز دیک روز کی ایک روز دیک روز کی ایک روز دیک روز کی ایک روز دیک را کو ایک روز کی کی ایک روز کی کی تو ہی کی تیک روز کی کی تو کی ایک روز کی ایک روز کی کی تو ہی کی تو ہی کی تیک روز کی کی تو کی ایک روز کی کی تو ہی کی تو ہی ایک روز کی ایک روز کی کی تو ہی کی تک روز کی کی تو ہی کی تک تک روز کی ایک روز کی ایک روز کی کی تو ہی کی تک روز کی کی تو ہی کی تو کی کی تو کی کی تو کی ایک روز کی کی تو کی تک کی تک کی تک کی تک کی تک روز کی کی تو کی کی تو کی کی تو کی کی تک کی تک کی تک کی تک کی کی کی تک کی کی تک کی کی تک کی کی کی تک کی کی کی تک کی	ینز، 23 ایم انی ماد دود بر ای یک مرجع دو ین کر 23 ایم انی ماد دود بر ای یک می رجع دو یک سرح می ایک می دفعه (3) (23 ای لیک الکر ہوتا ہے)۔ یک م کر نے کے لیے دختا مدی داخل کر۔ یک م کر نے کے لیے دختا مدی داخل کر۔ اروں کے درمیان تشیم کر سکتا ہے۔ اروں کے درمیان تشیم کر سکتا ہے۔ میں ان کی دیمی کی تشیم ایک میں میں ایک در میں کہ بیک میں میں ایک در میں کہ ماد یک ترین مانے اور میں کہ بیک ہے۔ یک ترین مانے اور میں کہ بیک ہے۔ یک ترین مانے 20 کی در میں کہ بیک ہے۔ یک ترین مانے 10 مور کر میں کہ ماد یک تک تعاد اور بیش کر تعداد کی تا اور ایک میں کہ ماد یک تا تی ایک در میں کہ تعداد کی تا اور ایک ایک ایک ایک ایک در میں کہ ماد یک تو میں میں میں کہ دو میں ایک ایک او کی کہ تعداد کی تعداد کی ماد یک تا تی میں میں کہ دو میں ایک اور ایک ماد تیں کہ دو میں ایک ایک اور ایک تا تی کہ دو میں ایک ایک اور ایک ماد یک در میں میں کہ دو میں ایک اور ایک ماد ایک ماد تی کہ دو میں ایک اور ایک ماد تیں ایک دو میں ایک اور ایک ماد تی کہ دو میں ایک دو میں کہ ماد کہ ماد کہ ماد تی کہ دو میں ایک دو میں ایک دو میں ایک دو میں کہ ماد کہ دو کہ دو میں ایک دو میں ایک دو کہ دو کہ دو میں ایک دو کہ دو دو کہ دو دو کہ دو ک	یکویتی کراتا ہوں گی ادریا تو مارت حبیب کویتی کراتا ہوں گی ادریا تو مارت حبیب (CCC-20) کے بیکویت ۲۸ کی متر در ایت مارت کا داخل کر نے دالے تحض کے نیس مارت کی مالان کے دار الحض کے نیس کی تک تر اددا الر تیل کے طور کے تعنی ال تکلی میں ایک نے دارامید د تعنی ال تکلی میں ایک نے دارامید د نیس کی تک کی دیسورت دیگر، دکن ال بی تعنی ال تکلی میں ایک نے دارامید د نیس کی تک کا دردانی میں حسین کے در تعنی ال تکلی میں ایک نے دیا دامید د تعنی کے در دین ال تک سی در دین ال میں تعنی کے در دین کا کا در دن میں داراد د تعنی کی در دین میں داراد د تعنی کی دین ہولڈ د تعنی کی در دین کا کی نے معنی دین در دارا میس تیز دارد میں کی محدود ال میں میں دور سی میں در دارد میں کی محدود میں دین معلومات میں در دارد میں کی محدود دارا میں میں دور سی میں در ال کی دین میں دور معالی دین دین در دارا میس میں دور دار میں ایک دور میز ماری کے در در ایک ال میں دور دین میں دور دین میں دور میں دور میں دور میں دور میں در ال دین میں کی دور دین میں دور دین میں دور معدود میں در ال دین میں کی دور میں میں معدود میں دور معدود دار کی میں دور میں دور میں دور میں دور میں میں میں میں میں دور میں میں دور میں میں میں میں میں میں دور میں میں دور دور میں دور م	 چا ا ۔ مندر بدوذ بل طلا بد دستا و بزات تمانی تکریز کر وذات کار بور یت گورش) ریگر بطتر و 200 (19) ن مشتول ی تعداد من منابع ا مندی ۔ ایس ساح کار نے کی دخا مندی ۔ ایس ساح کار مندی دخا کار دونتر کا چھ۔ ایس ساح کار این اور اور کیل ساح کار پر کام کی تکی تات کار ایس ساح کار اور کار کیل ساح طور پر کام مرک کی تکی تات کار سندی کا بانا چاہت کر کی کیل کری کی تات کو ہر اکر تاک ہوں کہ تات کار سندی کا بانا چاہت کر کی کیل کری تات کو ہر کام کر نے کے لئے مندی کا بانا چاہت کر کی کیل کری تی تات کو ہو کار کار کا کو منتر سندی کا بانا چاہت کر کی کیل کری کی تات کار مرکن ایت تام دون ایک مریز کا تو دوبا ما متاباً ان مرکن ایت تام دون ایک مریز کار تاک کو ہز کر کار کو منتر مرکز کا یت تام دون ایک مریز کار کی کو تات کے اور کار کا کار مرکن ایت تام دون ایک مریز اور دی سکتا ہے ان مرکز کا یت تام دون کار کار کار کا کار تاک کار تاک کار تاک کار تاک کار تاک کارت کا مرکز کا تیت کار دون ایک مریز اور دار کے در ساح تان کار کار کی تاک دوروں اطراف کی کار تاک کارت کا کار کار کی تو دارت کے مارت کار کار تاک کارت کا مرز کار تی کو دوبا کی میں کار کی کو دی تائے تاک مرز کار تی کو دوبا کا میں کر داری کو دی تاح تاک مرد کار تاک کارت کا کار کار تی تام دون کار کار کار تاک کارت کا کارت کا مرز کار تی کو دوبا میں ایک مرد کار تاک کارت کا کار کار کار تاک کارت کا کارت کار کارت کار کارت کار کارت کار کار کارت کار کارت کارت	والا ڈائر کیٹر ہو یا کوئی اور جو ایکٹر لڑا تھا ہتا 2 <u>کر دیع</u> تر میڈ م ک مالا تی لمذک نیز () 2 <u>کر دیع</u> تر میڈ م ک مالا تی لمذک نیز () 2 <u>کر دیع</u> تر میڈ م ک مالا تی لمذک نیز (ک 2 <u>کر یکٹر ان کا میڈی کی مالا یک روک</u> کے <u>ک</u> 2 <u>کر یکٹر وں کا طریقہ کا در ان کی رکھ</u> کے <u>ک</u> 2 <u>کر یکٹر وں کا طریقہ کا در ان کی رکھ</u> کے <u>ک</u> 2 <u>کر یکٹر وں کا طریقہ کا در ان کی رکھ</u> کے <u>ک</u> 2 <u>کو</u> یکٹر وں کا طریقہ کا در ان کی کا دارل کی تی د 2 <u>کو</u> یکٹر وں کا طریقہ کا در ان کی کا دارل کی تی د 2 <u>کو</u> یکٹر وں کا طریقہ کا در دانل کی دور ان کی تعداد 1 * 100 = 1000 1 * 100 = 3000 1 * 100 = 3000 2 * 100 = 5000 1 * 100 = 5000 2 تحد ان کیٹر کی میٹر ہو نے دارل ڈائر 2 در دونا میڈ کا دارل تی کہ دور دور دائر کی ا 2 در دونا میڈ کی دائر <u>کیٹر کی کی تی</u> ہو نے دالے لڈائ 3 ٹارڈ () 2 مالا دی در دوار سے کا دائر کی کے دی 3 ٹارڈ () 2 مالا دی در دوار سے کا دائر کے دی 3 ٹارڈ () 2 مالا دی در دوار سے کا دائر کے دی 3 ٹارڈ کا داؤ تکی ان ایکٹر میڈ کا دائر کی دی 3 ٹور کا داؤ تکان دائی تک میڈ کی دائر کے دائر کا دائر کے دائر کا دائر کے د 3 ٹور کا دائر کا میڈو کی مالا دی دوار سے کا دائر کے دائر کا دائر کے دائر کا م 3 ٹور کا دائر کا م میڈو کی دوار سے کا دائر کے دولی کے دور 3 ٹور کا دائر کے موٹر کی مالو تی کے دور دور دائر کا دائر کے دولی کا دائر کے دوار 3 ٹور کا دائر کے موٹر کی مالو تی کے دور کی کا دائر کے دوئر کا دائر کے دوار 3 ٹور کا دائر کے دوٹر کی دوئر کی دائر کے دوٹر کی دائر کے دوئر کا دائر کے دوٹر کا دائر کے دوٹر کا دائر کی دوٹر کا دائر کے دوئر کا دائر کا دوئر کی دوئر کا دائر کے دوئر کے دائر کی دوئر کوئی کی دوئر کے دائر کی دوئر کوئر کی دوئر کوئی کا دائر کے دوئر کوئی کوئی کی دوئر کوئی کوئی کے دائر کے دوئر کے دائر کی دوئر کے دائر کوئی کے دوئر کے دائر کوئی کوئی کے دوئر کے دوئر کے دائر کے دوئر کے دائر کوئی کی دوئر کی کا دائر کے دوئر کے دائر کی دوئر کی کا دوئر کے کا دوئر کی دوئر کی دائر کے دوئر کی دائر کے دوئر کی کا دوئر کی دوئر کی کوئی کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی کوئی کی دوئر کی دوئر کی کوئی کی دوئر کی کوئی کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کوئی کی دوئر دوئر کا دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کوئی کی دوئر		از بر یکورز کا اتلا تبخی کی برد تراقا بر یکورز کا اتلا بر یکورز کا بیکور از یکورز کی بیکور از یکورز کی بیکور بر یکور یکور بر یکور
ـ اخم شراب تری ایم کار را بی چرده ایس شری ا بر تری ایم کار را بی چرده ایس خور ایس کار ایم کار ایم کار ایم کار سی شارع قیمل ، کر ایم کار ارسال کریں۔ سی شارع قیمل ، کر ایم کار ارسال کریں۔ ایس پر واقع مین کا شعر ر جزا رکسالا نہ میں کا تاب (صعی کی تعداد) کر وال 4، سی تری ایک رو تری کار یک تعداد) کر کاب اور دیم کی تعداد) کاب اور ت ہوگی۔ کر کاب اور دیم کی دیم – در لیے ایس سی میں ایم را کا دو تک پایی تر کو تر کر کاب اور دیم کی دو تک پایی تر کو تر کر کاب اور دیم کی دو تک پایی تر کو تر کر تر بی میں ایم را کی دو تک پایی تر کو تر کر تر کاب کا میں ایم را کی دو تک پایی تر کو تر تر تر میں ایم کار میں کا دو تک پایی تر کو تر تر تر میں ایم کار میں کا دو تک پایی تر کو تر تر تر میں ایم کر دو تر میں کا دو تک پایی تر کو تر کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا	۲ مَنْ اینا تَلَمَ او دَتَّصَوی دور ذَرَ بَرَ این کَ سَائَة کر طالق مندرجد ذیل کنگر بیان شرا اختابات کے دوا نے تحض کے لئے الاکو ہوتا ہے)۔ دوا نے تحض کے لئے الاکو ہوتا ہے)۔ ہے۔ رکن اپنے تمام دور نے کی ایک اسمید دار کو د ہے۔ رکن اپنے تمام دور نے کی ایک اسمید دار کو د میں این کان سے این میں اور نے کی ایک اسمید دار کو د میں این کان سے این میں اور نے کی ایک اسمید دار کو د میں این کان سے این میں اور نے کی ایک اسمید دار کو د میں این کان سے این کان سے ایک اسمید دار کو د میں این کان سے این میں اور نے کی ایک اسمید دار کو د میں این کان سے التا کا ہے کہ ایک میں دار کو د میں این کان سے التا کا ہے کہ دو متعدرہ بالا میں میں این کان سے التا کا ہے کہ دو متعدرہ بالا میں کان کا کہ میں دور ایک کی دیکی این اس کے رو میں میں مور کے لیے ایا دور سے کا تی استمال کر ہے میں میں میں این کان سے تبد بل کر نے کی ایک اس میں میں بی در ایک تی لیز کر ایک ایک ایک ر میں میں دور کی تی تی در دی کی تو تی کی تی دیک کر لیک ایک ا میں میں میں دی کی تو تی کی تی کہ در کی ایک ر میں میں دی کی تو تی کی تو تی کی ایک ر میں میں دی کے ایک در تی کی ایک ر میں میں دی کے لیک ر میں میں کہ تی در دی کی تو تی کی تی دیک کے لیک دیک کی لیک دیک کی ایک دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کے لیک دیک کی دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کی دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کی دیک کی دیک کی لیک دیک کی دیک کی لیک دیک کی دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کی دیک کی دیک کی کی دیک کی دیک کی دیک کی لیک دیک کی دیک کیک دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی کیک دیک کی دیک کی کی دیک کی دیک کیک دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کیک دیک کیک دیک کیک دیک د	ینز، 23 ایم انی ماد دود بر ای یک رجز وز ایت کر مطابق ایک کی دفعہ (3) (23 ایک لیک الکو ہوتا ہے)۔ لیک الکو ہوتا ہے)۔ لیک الکو ہوتا ہے)۔ پر کام کر نے کے لیے رضا مندی داخل کر ریمار کس کی دسیای تعدم ارتکا ہے۔ ایک کری کی شعر دیتیا ہوتا دیتا ہے۔ ایک ردیمای تعدیم کر سکتا ہے۔ ایک رویک ہیلات کے در لیے AGM مر ہوتی کر ریمان تعدیم کر سکتا ہے۔ ایک رویک ہیلات کے در لیے AGM مر کی۔ مواکل نیز رجز ارمر ومر المیلا، ہی ڈی مواکل ہو نے کہا لیے مراہم کند کان کی قدار کی المیلا، موالا اور کی میں محص رکھتے ہیں دومی ڈی المی کی الوا مراہم کند کان کی در ایو شیخ میں الی کی الوا مراہم کند کان کی در ایو شیخ میں الیک کی الوا مراہم کند کان کی طرف می تر ارداد پر دون ڈالے لیے کی کی کی طرف می تر ارداد پر دون ڈالے کے مرا کی مول کے اس دوت کر ادری کی محد ڈی مرا کی مول کے اس دوت کر ادری کی محد ڈی	یکوی کرای ہوں گی اور یا تو مارت حبیب کری کر ایہ ہوں گی اور یا تو مارت حبیب (COCG-20) کے بطیفتن ۲۸ کی خرور تی تعلیم کی 18 انز کم نے دائے شخص کے تی اور خوائی کی تیسم اس کیل کی تی تو تا افل نیس اس کیل کی تعلیم اس کیل کی تی تو تا اور تیس اس کیل کی تما آیک تر اور اسمید تیس اس کیل کی تما آیک تر یا واسمید تیس اس کیل کی تعلیم اس کیل کے تو تا واسمید تیس اس کیل کی تما آیک تر یا واسمید تیک تر دونا را مید تیک کی دونات شر تیک تر دونا کیل جس کا خوان " دونات نیس دونات شین کر دونا را میل تیک در دونات شین کر دونات شین کر او دار تیک اس کیل میں تو تا سے شینز موال کے دونا تر اس حول کی تیک اس کا تو دونات کی مردان کو تیک دونات تر اس کی تیک مردان کے تو تا تا کی دونات شر تیک دونات تر اس کی کی مردان کی تو تا تا تا دونات شر کر دونا تیک دونات تیک دونات شری ماد دونات میں مردان دونات میں دونات تیک دونات شر تیک دونات تیک دونات شری مان کی دونات میں مرد دونات کی دونات شر دونات تر دونات کی دونات شر دونات تیک دونات شر دونات تیک دونات شر دونات تیک دونات شر دونات تا دونات شر دونات تیک دونات شر دونات تیک دونات شر دونات تا دونات تا دونات شر دونات تا دونات شر دونات تا دونات شر دونات تا دونات ت	 با اس المدرجة في طرطلا بد حتاد يزات تماني تكريم في المدرود في المطلور التا ويزات كار بيار عد كون من الميكوليشور (200 (19)) 03 05 05 05 16 17 18 19 10 11 12 12 12 12 14 15 15 16 16 17 16 17 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 16 17 16 16 17 18 18 18 18 19 10 10<td>والاذائر کیتر بو یا کوتی اور جو ایتم از با جابتا 2 <u>کرد بیع</u> تم شد و <u>م</u> مالا ارت 2 <u>کرد بیع تم شد و معالی ارت ارت کوتر از</u> 2 <u>کرد بیع</u> تم شد و <u>م</u> مالار ارت ارت کوتر ایتر 2 <u>کرد کوت</u> تا مالا مید 2 <u>کرد گو</u> تحت اطلا مید 2 <u>کرد ایتر میتر می</u> که مورند مین) <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 4 <u>م</u> 3 <u>م</u> 4 <u>م</u> 4 <u>م</u> 5 <u>م</u></td><td></td><td>از بکرزگارتخاط تبخی کے برذ تا طق تبخی کے برذ تا طق بز کیلز کے اعلام ن کیل بیچا برد تا طلع ن کیل بیچا برد عبر طلاح ن کیل بیچز ر کیلیشز ن کیل بیچز ر کیلیش ن کیل بیچز ر کیلیش ن کیل بیچز ر کیل ن کیل بیچز ر کیل ن کیل بیچز ر کیل ن کیل بیچز ر کیل ن کیل بیچز کیل ن کیل کیل ن کیل کیل ن کیل کیل ن کیل کیل ن کیل کیل ن کیل ن کیل ن کیل ن کیل ن کیل کیل ن کیل</td>	والاذائر کیتر بو یا کوتی اور جو ایتم از با جابتا 2 <u>کرد بیع</u> تم شد و <u>م</u> مالا ارت 2 <u>کرد بیع تم شد و معالی ارت ارت کوتر از</u> 2 <u>کرد بیع</u> تم شد و <u>م</u> مالار ارت ارت کوتر ایتر 2 <u>کرد کوت</u> تا مالا مید 2 <u>کرد گو</u> تحت اطلا مید 2 <u>کرد ایتر میتر می</u> که مورند مین) <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 4 <u>م</u> 3 <u>م</u> 4 <u>م</u> 4 <u>م</u> 5 <u>م</u>		از بکرزگارتخاط تبخی کے برذ تا طق تبخی کے برذ تا طق بز کیلز کے اعلام ن کیل بیچا برد تا طلع ن کیل بیچا برد عبر طلاح ن کیل بیچز ر کیلیشز ن کیل بیچز ر کیلیش ن کیل بیچز ر کیلیش ن کیل بیچز ر کیل ن کیل بیچز ر کیل ن کیل بیچز ر کیل ن کیل بیچز ر کیل ن کیل بیچز کیل ن کیل کیل ن کیل کیل ن کیل کیل ن کیل کیل ن کیل کیل ن کیل ن کیل ن کیل ن کیل ن کیل کیل ن کیل
ـ اخم شراب تری ایم کار را بی چرده ایس شری ا بر تری ایم کار را بی چرده ایس خور ایس کار ایم کار ایم کار ایم کار سی شارع قیمل ، کر ایم کار ارسال کریں۔ سی شارع قیمل ، کر ایم کار ارسال کریں۔ ایس پر واقع مین کا شعر ر جزا رکسالا نہ میں کا تاب (صعی کی تعداد) کر وال 4، سی تری ایک رو تری کار یک تعداد) کر کاب اور دیم کی تعداد) کاب اور ت ہوگی۔ کر کاب اور دیم کی دیم – در لیے ایس سی میں ایم را کا دو تک پایی تر کو تر کر کاب اور دیم کی دو تک پایی تر کو تر کر کاب اور دیم کی دو تک پایی تر کو تر کر تر بی میں ایم را کی دو تک پایی تر کو تر کر تر کاب کا میں ایم را کی دو تک پایی تر کو تر تر تر میں ایم کار میں کا دو تک پایی تر کو تر تر تر میں ایم کار میں کا دو تک پایی تر کو تر تر تر میں ایم کر دو تر میں کا دو تک پایی تر کو تر کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا	۲ مَنْ اینا تَلَمَ او دَتَّصَوی دور ذَرَ بَرَ این کَ سَائَة کر طالق مندرجد ذیل کنگر بیان شرا اختابات کے دوا نے تحض کے لئے الاکو ہوتا ہے)۔ دوا نے تحض کے لئے الاکو ہوتا ہے)۔ ہے۔ رکن اپنے تمام دور نے کی ایک اسمید دار کو د ہے۔ رکن اپنے تمام دور نے کی ایک اسمید دار کو د میں این کان سے این میں اور نے کی ایک اسمید دار کو د میں این کان سے این میں اور نے کی ایک اسمید دار کو د میں این کان سے این میں اور نے کی ایک اسمید دار کو د میں این کان سے این کان سے ایک اسمید دار کو د میں این کان سے این میں اور نے کی ایک اسمید دار کو د میں این کان سے التا کا ہے کہ ایک میں دار کو د میں این کان سے التا کا ہے کہ دو متعدرہ بالا میں میں این کان سے التا کا ہے کہ دو متعدرہ بالا میں کان کا کہ میں دور ایک کی دیکی این اس کے رو میں میں مور کے لیے ایا دور سے کا تی استمال کر ہے میں میں میں این کان سے تبد بل کر نے کی ایک اس میں میں بی در ایک تی لیز کر ایک ایک ایک ر میں میں دور کی تی تی در دی کی تو تی کی تی دیک کر لیک ایک ا میں میں میں دی کی تو تی کی تی کہ در کی ایک ر میں میں دی کی تو تی کی تو تی کی ایک ر میں میں دی کے ایک در تی کی ایک ر میں میں دی کے لیک ر میں میں کہ تی در دی کی تو تی کی تی دیک کے لیک دیک کی لیک دیک کی ایک دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کے لیک دیک کی دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کی دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کی دیک کی دیک کی لیک دیک کی دیک کی لیک دیک کی دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کی لیک دیک کی دیک کی دیک کی کی دیک کی دیک کی دیک کی لیک دیک کی دیک کیک دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی کیک دیک کی دیک کی کی دیک کی دیک کیک دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کیک دیک کیک دیک کیک دیک د	ینز، 23 ایم انی ماد دود بر ای یک رجز وز ایت کر مطابق ایک کی دفعہ (3) (23 ایک لیک الکو ہوتا ہے)۔ لیک الکو ہوتا ہے)۔ لیک الکو ہوتا ہے)۔ پر کام کر نے کے لیے رضا مندی داخل کر ریمار کس کی دسیای تعدم ارتکا ہے۔ ایک کری کی شعر دیتیا ہوتا دیتا ہے۔ ایک ردیمای تعدیم کر سکتا ہے۔ ایک رویک ہیلات کے در لیے AGM مر ہوتی کر ریمان تعدیم کر سکتا ہے۔ ایک رویک ہیلات کے در لیے AGM مر کی۔ مواکل نیز رجز ارمر ومر المیلا، ہی ڈی مواکل ہو نے کہا لیے مراہم کند کان کی قدار کی المیلا، موالا اور کی میں محص رکھتے ہیں دومی ڈی المی کی الوا مراہم کند کان کی در ایو شیخ میں الی کی الوا مراہم کند کان کی در ایو شیخ میں الیک کی الوا مراہم کند کان کی طرف می تر ارداد پر دون ڈالے لیے کی کی کی طرف می تر ارداد پر دون ڈالے کے مرا کی مول کے اس دوت کر ادری کی محد ڈی مرا کی مول کے اس دوت کر ادری کی محد ڈی	یکوی کرای ہوں گی اور یا تو مارت حبیب کری کر ایہ ہوں گی اور یا تو مارت حبیب (COCG-20) کے بطیفتن ۲۸ کی خرور تی تعلیم کی 18 انز کم نے دائے شخص کے تی اور خوائی کی تیسم اس کیل کی تی تو تا افل نیس اس کیل کی تعلیم اس کیل کی تی تو تا اور تیس اس کیل کی تما آیک تر اور اسمید تیس اس کیل کی تما آیک تر یا واسمید تیس اس کیل کی تعلیم اس کیل کے تو تا واسمید تیس اس کیل کی تما آیک تر یا واسمید تیک تر دونا را مید تیک کی دونات شر تیک تر دونا کیل جس کا خوان " دونات نیس دونات شین کر دونا را میل تیک در دونات شین کر دونات شین کر او دار تیک اس کیل میں تو تا سے شینز موال کے دونا تر اس حول کی تیک اس کا تو دونات کی مردان کو تیک دونات تر اس کی تیک مردان کے تو تا تا کی دونات شر تیک دونات تر اس کی کی مردان کی تو تا تا تا دونات شر کر دونا تیک دونات تیک دونات شری ماد دونات میں مردان دونات میں دونات تیک دونات شر تیک دونات تیک دونات شری مان کی دونات میں مرد دونات کی دونات شر دونات تر دونات کی دونات شر دونات تیک دونات شر دونات تیک دونات شر دونات تیک دونات شر دونات تا دونات شر دونات تیک دونات شر دونات تیک دونات شر دونات تا دونات تا دونات شر دونات تا دونات شر دونات تا دونات شر دونات تا دونات ت	 چا الے صند رجود یل مطلو بد حتاہ یز الے تیلی تکریز کر وذا تو کار بور یے کورنس) ریگولیشون (200 (191) 0 من میں) ریگولیشون (200 (191) 0 من میں) میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں	والاذائر کیتر بو یا کوتی اور جو ایتم از با جابتا 2 <u>کرد بیع</u> تم شد و <u>م</u> مالا ارت 2 <u>کرد بیع تم شد و معالی ارت ارت کوتر از</u> 2 <u>کرد بیع</u> تم شد و <u>م</u> مالار ارت ارت کوتر ایتر 2 <u>کرد کوت</u> تا مالا مید 2 <u>کرد گو</u> تحت اطلا مید 2 <u>کرد ایتر میتر می</u> که مورند مین) <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 2 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 3 <u>م</u> 4 <u>م</u> 3 <u>م</u> 4 <u>م</u> 4 <u>م</u> 5 <u>م</u>	ن از کیلوری موجود دو در 2012 بر 2014 وی ب ک لیکونی تلوی تلوی تلوی تلوی تلوی تلوی تلوی تلو	از بکرزگارتخاط بجه کی کر برذ آف بجه کی کر برذ آف بر یک برز کا تخا بر یک برز کی بخا از بی برز گذیش برخال کی دفت برخال کی دفت برخال کی دفت برخال کی دفت برخال کی دفت برخال کی دفت برخال کی دفت برز بیل می برز برز بیل کی دفت برز بیل کی دفت برز بیل کی تخال برز بیل کی دفت برز بیل کی
باق شری ا ۔ تی ایم کی تاریخ ۔ یودو ایس شری ا ۔ تی ایم کی تاریخ ۔ یودو ایس خور کو ٹی کر ایس کی کر میں ایک ایس سری سی کی کر میں ایک ایس سری فی سی کی کر میں ایک ایس پر دائع قیمل ، کر این کو ارسال کر یں۔ ایس پر دائع میں کہ تاہم ایک کو تاریک میں کا تاب (صعب کی تعداد) ایس ہو کی ایس کی تعداد) ایس ہو کی ۔ ایس میں ایس ایر ریس کے در لیے ایس میں ایس کا ریس کے در لیے ایس میں ایس کا ری کی متحود کی ۔ مودی ایش میں را یے کا ری کی متحود کی ۔	۲ مَنْ اینا تَمَم اورتک مورد و کر ایل کی سائند که طالق مندرجد فیل کنگر بیل شرا تقایات کے که طالق مندرجد فیل کنگر بیل شرا تقایات کے نیس کا محالی میڈی میں میں اور می کی ایک اسمید وار کود۔ ہے۔ رکن اپنے تمام دورت کی ایک اسمید وار کود۔ ہے۔ رکن اپنے تمام دورت کی ایک اسمید وار کود۔ کا کہ سل ایڈرلس مجاورت کی ایک اسمید وار کود۔ کہ میں ایڈ تکان سے التما تی ہے کہ دومندرجہ بالا میڈرک سے لیے شیئر ہولڈر در کی حوسلیا فرا نگ کی ، میڈرک سے لیے شیئر ہولڈر در کی حوسلیا فرا نگ کی ، کہ سی ایڈ تکان سے التما تی ہے کہ دومندرجہ بالا کی سی ایڈ تکان سے التما تی ہے کہ دومندرجہ بالا کہ میں ایڈ تکان سے التما تی ہے کہ دومندرجہ بالا کہ میں ایڈ تکان سے التما تی ہے کہ دومندرجہ بالا کہ میں ایڈ تکان سے التما تی ہے کہ دومندرجہ بالا کہ میں ایڈ تکان سے تا تمان تی ہے کہ دومندرجہ بالا کہ میں ایڈ تکان سے التما تی ہے کہ دومندرجہ کا تی استمال کر سے کہ میں ایک میں بیل دی کی تو ہی کی بیل کہ دیکا استمال کر سے کہ میں ایک میں میں دی کی تو دی کی بیل کہ دیکا استمال کر سے میں میں میں دی کہ تی دومند کی تھی تو ہوں کہ تھی ہولڈر رہ کے کی ایوا در میں ہو دی تی تی میں دی کہ جو دی کی تی میں کہ تھا ہے کہ میں دیکا ہے تھا کہ ہوں ہو تھا ہے تھا ہوں ہے کے در میں میں میں میں میں میں کہ میں ہوں کہ تھا ہوں ہو ہو ہو کی تی تو ہوں کہ تھی ہو ہو ہو ہو تھا ہے تھا ہوں ہو ہو ہو تھا ہوں ہو ہو ہو تھا ہے تھا ہوں ہو ہو ہوں کہ تھا ہوں ہو ہو ہو تھا ہے تھا ہوں ہو ہوں ہو تھا ہے ہوں ہوں ہوں ہو تھا ہوں ہو ہو ہوں ہو تھا ہو تھا ہوں ہو تھا ہوں ہو تھا ہوں ہو تھا ہو تھو تھا ہو تھوں ہو تھا ہو تھو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھو تھا ہو تھا ہو تھو تھا ہو تھو تھا ہو تھو تھا ہو تھا ہو تھو تھو تھو تھو تھو تھو تھو تھو تھو تھ	ینز، 23 ایم فی خان روز بر ایچ یسی رجز وز ایت تر سطا بتن ایک یکی دفته (3) (3) 15 ایت تر سطا بتن ایک یکی دفته (3) (3) 15 ایک اگو ہوتا ہے)۔ لیک اگو ہوتا ہے)۔ پر کام تر نے کے لئے رضا معدی داخل کر ریمار کسی دستیا ہوں 10 دونہ ڈال سکتا ایک روسای تشیم کر سکتا ہے۔ ایک روسان کی درمیان کسی کہ درمیان کی درمیان کسی دیک رین عالم اور لیکن کی تعداد) کر ایک تک در ایپ شیخ ہولڈ رز کے ایک محلال ہوں کی ان کر دو تو اعد ش بیان کر دو مثر انکا کے مطال تن کی دو ایک ماد و تا ہے کہ کر دو دونہ ڈالے کے مطال تن ایک را کی طرف تر ارداد پر دونہ ڈالے کہ مطال تن ایک را کی طرف تر ارداد پر دونہ ڈالے کے مطال تن کی رکن کی طرف تر ارداد پر دونہ ڈالے کے مطال تن کی را کی کا دون سے قرار داد پر دونہ ڈالے کے مطال تن کی را کی کا دون سے قرار داد پر دونہ ڈالے کے مطال تن کی را کی خال دون سے قرار داد پر دونہ ڈالے کے مطال تن کی را کی خال دون سے قرار داد پر دونہ ڈالے کے مطال تن کی را کی خال دون سے قرار داد پر دونہ ڈالے کے مطال تن کی را کی خال دون سے قرار داد پر دونہ کے ایک دیک ایک رون کی را کی خال دو سے قرار داد پر دونہ ڈالے کے دونہ دیک ایک رون کی را کی خال دو سے قرار داد پر دونہ دونہ کے ایک دونہ کے تی دونہ دونہ کے دونہ دونہ کے تک رونہ کے دونہ دونہ دونہ دونہ کے دونہ دونہ دونہ کے تک دونہ دونہ دونہ دونہ دونہ دونہ دونہ دونہ	یکوی کرای ہوں گی اور یا قومار نے حیاب کوی کرای ہوں گی اور یا قومار نے حیاب کوی کر دی کو یک کی کو یہ کر کے دار کوی کو یک کا دار کا کر نے دار طریس کے کے درخاستدی داخل کر نے دار طریس کے تیک کے درخاستدی داخل کر نے دار طریس کے تیک کے درخاستدی داخل کر نے دار طریس کے تیک تیک اس کی تلکی میں ایک نے زیادہ اسمید تیک اس کی تلکی میں ایک نے زیادہ اسمید تیک اس کی تلکی میں ایک نے زیادہ اسمید کے درخاس کی تلکی میں ایک نے زیادہ اسمید کے درخاس کی تلکی میں ایک نے زیادہ اسمید کے درخاس کی تلکی میں ایک نے در دار اسمید کے درخاس کی تلکی میں ایک نے دردار اسمید کے درخاس کی کا دونان میں میں کی کے در دار اسمید کے درخاس کی کا دونان میں مد نے تیک کے درخاس کی کا دونان میں مد نے تیک کے درخاس کی کا دونان میں مد نے تیک کے درخاس کی کی دونان میں مد نے تیک کے درخاس کی دونان میں تیک مواد اسمید کے درخاس کی دونان میں تیک مرد دار دیک کے درخاس کی دونان میں تیک مرد دار دیک میں داد دار کے درخاس کی دونان میں تیک مرد دار دونان کے درخاس کی دونان میں تیک مرد دونان کے دونان میں دونان کے درخاس کی دونان کے دونان میں تیک دونان میں دونان میں دونان کے درخاس کی دونان کی مرد دیک مرد دونان کے دونان میں دونان کے درخاس کی دونان کی مرد دونان کے تیک مرد دونان کے درخاس کی دونان کی مرد دونان کے دونان میں دونان کے درخاس کی دونان کی مرد دونان کے تیک مرد دونی کی دونان کے درخاس کی دونان کی دونان کی مرد دونان کے دونان کی دونان کی دونان کی دونان کے دونان کی دونان کی دونان کی دونان کی دونان کی دونان کی دونان کی دونان کی دونان کے دونان کی دونان کی دونان کی دونان کی دونان کی دونا	 چا الے مندر ہونے فیل طلو بد حتاہ دیز الے تیلی تحلیم کرتی ہوئی اور 100 (191) وذا آن کار پر بیف کورٹن) ریگو لیفر ور 200 (191) 03 05 رفت کام کر نے کی مشامدی ۔ لیک میل اور 100 (191) لیک میل اور 100 (191) لیک میل اور 100 (191) کام میل اور 100 (1910) کام کام میل اور 100 (1910) کام کام میل اور 100 (1910) کام کام کام میل اور 100 (1910) کام کام کام کام کام کام میل اور 100 (1910) کام کام کام کام کام کام کام کام کام کام	والا ڈائر کیٹر ہو یا کوئی اور جو ایکٹر لڑ نا چا بتا۔ <u>2 کے در بیع</u> تر کم شد میں سطانی لڑ نا چا بتا۔ <u>2 کے در بیع</u> تر کم شد میں سطانی لر طریق نز () <u>2 کی در بیع</u> تر کم شد میں سطانی لر طریق نز () <u>2 کی تح</u> تکوئی او یہ سائن کر رکھ کے <u>2</u> <u>2 کی تح</u> تکوئی ایس کم رول یک اور کی تحی ن برد کے تحت اطام ہے۔ <u>2 کی تح</u> والی تری کی محرت میں)۔ <u>2 کی تح</u> والی تری کی محرت میں)۔ <u>2 کی تح</u> اور تو کی تحی کی محرت میں)۔ <u>2 کی تح</u> والی تو کی تحی کے <u>2 کی تح</u> <u>2 کی تح</u> والی تو کی تحی کے <u>2 محق میں ا</u> <u>2 محق محق میں)۔</u> <u>2 تحق کو تحقی کی محموت میں)۔</u> <u>2 تحق کو تحقی کی محموت میں)۔</u> <u>2 تحق کو تحقیق کی تو اولی کی تحم اولی کہ محمود محمی)۔ <u>2 تحق کو تحقیق کی تو اولی کی تحم اولی کہ محمود محمی)۔</u> <u>2 تحق کو تحقیق کی تو اولی کی تحق اولی کی تحم اولی کہ محمود محمی)۔ <u>2 تحق کو تحقیق کی تو اولی کی تحق مراحل کی محمود محمی کے احتق کی محمود محمی)۔ <u>2 تحق کی محمود محمی کی تحقیق اولی تو کی احتقی محمود محمود ہو کی کہ تحقیم کو اولی کہ تحمول اولی کہ محمود محمود ہو کی تحق مراحل کہ ہو کہ والی کہ محمود میں کی تحق مراحل کہ ہو کہ کو اولی کی تحق مراحل کہ ہو کہ والی کہ محمود محمود کی کے تحقیق کی تو ایل کو کہ ہو کہ والے کو کہ ہو محمول کے اولی کوئی کے تحق مراحل کہ ہو کہ کو مرد کے انتق کہ ہو کہ کہ تحق مراحل کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو ہو ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو ہو ہو کہ ہو کہ ہو ہو ہو ہو کہ ہو ہو ہو کہ ہو کہ ہو ہو ہو ہو کہ ہو کہ ہو ہو ہو کہ ہو کہ ہو ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو ہو ہو کہ ہو کہ ہ</u></u></u></u>	ذائر کیفری موجود مد = 20 تو بر 20 2 با زیگر دی موجود مد = 20 تو بر کائر ہو نے زیگر کو تحق تحق می با = دور بنائر ہو نے زیگر کو تحق تحق می با = دور بنائر ہو نے زیگر کو تحق تحق می با = دور بنائر ہو نے زیگر کو تحق تحق می با = دور بنائر ہو نے زیگر کائر زیگر کائر کائرز زیگر تحق کائی کار دفت (17 دارڈ ائر کیئر زیگر تحق کائی کار دفت (17 دارڈ ائر کیئر زیگر تحق کائی کار دفت کائی کار دفت حوث ان خار کائر تک کرز	ابر کیفرز کا تقاب تبخی کی در نزد آن تبخی کی در نزد آن ابر کیفرز کی انقاد ابر کیفرز کی انقاد ابر کیفرز کی انقاد ابر کیفرز کی انقاد ابر کیفرز کیفرز ابر ایر ایر ایر
باق شری ا ۔ تی ایم کی تاریخ ۔ یودو ایس شری ا ۔ تی ایم کی تاریخ ۔ یودو ایس خور کو ٹی کر ایس کی کر میں ایک ایس سری سی کی کر میں ایک ایس سری فی سی کی کر میں ایک ایس پر دائع قیمل ، کر این کو ارسال کر یں۔ ایس پر دائع میں کہ تاہم ایک کو تاریک میں کا تاب (صعب کی تعداد) ایس ہو کی ایس کی تعداد) ایس ہو کی ۔ ایس میں ایس ایر ریس کے در لیے ایس میں ایس کا ریس کے در لیے ایس میں ایس کا ری کی متحود کی ۔ مودی ایش میں را یے کا ری کی متحود کی ۔	۲ فس یا یا تام آماد تصویی روز بر ایل یک سا تنا که طالق مندرجوذیل کنگر بیل ش ا تقابات کے که طالق مندرجوذیل طریق کار کی تقابات کے نی میں ا تقابات کے لیے اسروار کود ج - رکن ا چی تام ووٹ کی ایک امیدوار کود ج - رکن ا چی تام ووٹ کی ایک امیدوار کود ای سل بی رات کے لیے شیئر ہولڈر ری حوسیا فرائی کی ; میں بیڈ کان سے التا تا ج که دومندرجہ بالا ما علان کی تعاد ڈیل پی چند دارش ، آر کوئی ہوں ایک سل بی رات کا تعاد ڈیل پی چند دارش ، آر کوئی ہوں ایک سل بی رات کا تعاد ڈیل پی چند دارش ، آر کوئی ہوں ایک سک یا دور آم کی دائی ما تک کر کی مالی کر ایک ایک ایک روز (کوئی اور آم کی دائی) روز ، 1981 کے تی تو دارش ، آر کوئی ہوں است کر کہ ایک ایک کر ہو کی بی طرار اسا کہ روز کے ایک روز کا تو تی ایک است کر کر دی کا ہوا کے ای دو تک یا پی کر کر کی کا جن ایک روز کا تو تی ایک ایک روز ایک روز کا دو تا ہو تک میں ایک کر ہو کی ہو کہ روز کر کی اور کے ای دو تک یا پول است کہ کر ایک روز کا تو تک کی ایک روز کا تو کی ایک کے بعد ما ہے جن ہو کہ روز کی کی تو تو کا یا تی تر ہوں کر ہے تا ہوں کہ روز کہ کی ایک روز کا ہوں زار کہ مار کی اور شہر کے راتی تی تو تا یا تی کر دی کا ہوں کر ایک کر ہوں ایک تر کا ایک روز کا ہوں کہ کر ہو تا ہوں ہوں ہو تک کے لیے رائی کی ایک روز کر کی در کر کی ایک روز کر کی ایک روز کا ہوں کر دی کا ہوں ہو کر کی تا تک روز کی کا ہوں کر ہو تا ہوں ہوں کر دی کا ہوں ہوں کر دی بادوں کر ہو تک ہوں ہوں کر دی کا ہوں کر دی کا ہوں کر کے دور کی کی تو تو کی با شیز ہوں کر کر دی کا ہوں کر ہوں کر تک دی بادوں کر دی کا ہوں کر تک دور کر تک دور کر تک دی بادی کر دی کا ہوں کر دی کر ہو کر دی گر ہو تک ہو کر کا ہوں کر دی کا ہو کر کا ہو تا کر دی کا ہوں کر دی کا ہوں کر دی کا ہوں کر ہو دی کر ہو کر کر دی کا ہوں کر دی کا ہوں کر ہو کر کر دی کا ہوں کر دی کا تو تا کر ہو کر کر کر تک کا ہوں کر ہو کر کر تک کا ہوں کر ہو تا کر ہو کر کر کر تک کا ہو کر کہ خوب کا کر کر کر کا ہو کر کر دی کا ہو کر کر تک کا ہوں کر کر تک کا ہو کر کہ کر	ینز، 12 ایم فی خان روز برا پی میں رجز فی ین بر 20 ایم فی خان روز برا پی میں رجز فی یا ت کر مطا بق ا کی کی دفعہ (3) (15) ا لیے الا کو ہوتا ہے)۔ پیکا م کرنے کے لیے رضا مدی داخل کر ریمار کی میں دیتیا ب 100 دون ڈال سکا ریمار کی میں دیتیا ب 100 دون ڈال سکا ریمار کی میں دیتیا ب 100 دون ڈال سکا ریمار کی میں دیتیا ب 200 م A میر میاکل نجر میاکل نجر میاکل نجر دیتا ہے اور کیوی کو میں کے حال دیکار دیتا ہے اور کیوی کو میں کے حال دیکار دیتا ہے اور کیوی کو میں کے حال دیکار دیتا ہے اور کیوی کو میں کے حال دینا ہے اور کیوی کو میں کو میں ایک میں دینا ہے اور کیوی کو میں کو میں ایک دینا ہے دینا ہے اور کیوی کو میں کو میں کے دیکر میں کو میں ایک دینا ہے دیکار دو آ سی میں کی دین دینا روز دیکر مطال ہون ہیں کہ دینا ہے کہ 2014 دینا ہے میں ایک کر دینا ہے دو ایک کو میں کے دینا ہی میں کی دینا ہے میں کہ دینا ہے کہ دینا ہی کو دیتا ہے میں کے دینا ہے مطال ہی کی دینا ہے میں کہ دینا ہے میں کہ دینا ہے دینا ہے میں کے دینا ہی کہ کی دینا ہے دینا ہے میں کہ دینا ہے کہ کہ دینا ہے دینا ہے دینا ہے میں کہ دینا ہے دینا ہے دینا ہے دینا ہے دینا ہے کہ دینا ہے	یکوی کرای ہوں گی اور یا تو مارت حسیب کری کر ایہ ہوں گی اور یا تو مارت حسیب کر حسیب کر اور ایک کر بینے کے لیے مالان کر حسیب کر میں کہ کہ مزار ایک کر ہے (حرف کی تک کہ اور ایک کر کے مالان ہے (حرف کی تک کہ اور ایک کی کے مند کا اور ایک کر تی میں ایک کی کہ مارو ایک کی کہ مزار ایک کے مند کا اور اسمید و تی میں ایک کی کہ مارو ایک کی کہ مزار اسمید و تی کہ ایک کہ مزد ایک میں کہ مند کے میں کہ کہ مزد ایک مارک کے مند کے مالا کی کہ مزد ایک کہ کہ مزد ایک کہ	جا اسے مندر ہونے بل صلاح بد استا دیز است تینی تحلیم اور 10 وزورا اور اور اور اور اور اور اور اور اور	والا لذائر کمتر بو یا کونی اور، جو ایتی لز تا جابتا <u>2 - تر بع</u> تر می شد می سال این لیند بیند بز () <u>2 - تر بع</u> تر می شد می سال این لیند بیند بز () <u>2 - تر بع</u> تر می شد می سال این لیند بیند بز () <u>2 - تح</u> تعانی کار دی سال سی ر کت ک <u>2 - تر بیند</u> تر کون می کی مور سال یک اور کی تی ر <u>2 - تر بیند</u> () کی کار این کار دی کا اعلان <u>2 - تر بیند</u> () کی کار در انتی بر) ر گواییند زر <u>2 - تر بیند</u> () کی کار در انتی بر) ر گواییند زر <u>2 - تر بیند</u> () کی کار در انتی بر) ر گواییند زر <u>2 - تر بیند</u> () کی کار در انتی بر) ر گواییند زر <u>2 - تر بیند</u> () کی کار در انتی بر) ر گواییند زر <u>2 - تر می می ر می) - می تو</u> <u>2 - تر می می ایند</u> () کی تعان () کار اعلان <u>2 - تر می می ایند</u> () کی تعان () کار اعلان <u>2 - تر می می کار در مند می) - می تو</u> <u>2 - تر می می کار این کار می کار می ایند</u> () کار اعلان <u>2 - تر می می کار در می کار می کار می ایند</u> () کار تعان () کار ایند <u>2 - تر می می کار در می کار می کار می کار می کار می کار می ایند</u> <u>2 - تر می می کار کار کار کار کار کار ایند</u> <u>2 - تر می می کار در می کار کار کار ایند</u> <u>2 - تر می می کار در می کار کار کار کار کار کار کار کار کار کار</u>		ابر کیفرز کا اتخاب ابر کیفرز کیفرز ابر کیفرز ابر کیفر ابر کیفرز ابر کیفرز ابر کیفرز ابر کیفر ابر کیفرز ابر کیفر ابر کیفرز ابر کیفرز ابر کیفرز ابر کیفرز
باق شری ا ب تی ایم کی تاریخ ب یوده ایم کی کی بنا در با بادو ب ڈال کے تیں: ایم کی کی بنا در با بادو ب ڈال کے تیں: سیک بنا در با بنا در ب کا در ا کے تارید سیک بنا در با بنا میں ایک کی دقت کے م باق ہے۔ میں شادر می فیل کر ایم کا در سال کر یں۔ ایہ یہ دائع میں کی شیئر رجز ا دکسال ند میں کا تامب (تصمیل کا تعداد) ایہ یہ در ایم میں کی تقدر دیکر ا دکسال ند میں کا تامب (تصمیل کا تعداد) ایم نیس ہوگی۔ کی دجز ڈای میل ایئر کی منظوری نے ایم تویں میں با بی در کی کی منظوری نے کے داخر ڈای میل ایئر کی کی منظوری نے کی اخر داری میں ایک در بید ایش میں مربا بی مرک کی منظوری نے کی اخری ایم کی ان کی منظوری نے کی اخری میں میں با بی در کی کی منظوری نے کی اخری ایم کی کی منظوری نے کی اخری میں میں ایک کی کی منظوری نے کی اخری میں میں کی کی منظوری نے (100)	۲ من یا یا تحکم آباد تحکم دور ذیگر ایلی کسا تنا کسطان مند بود زیل کنگر بین شرا اختاب کے کسطانی مند بود زیل کنگر بین شرا اختاب کے نام میں او تحک کے لاگر ہوت کار کے مطابق مرکز میں کہ کر کی مند بود زیل طریقہ کار کے مطابق مرکز دو میں او تحک سے لیے شر ہولڈ رز کی حوصابی فران کی کار میں ایڈ کان سے قدام دو ملکی ایک امید وار کرد و میں ایڈ کان سے التا تال ہے کہ دو مند مرجد بالا میں ایڈ کان سے التا تال ہے کہ دو مند مرجد بالا میں ایڈ کان سے التا تال ہے کہ دو مند مرجد بالا مارکان کے تک مدون نیڈ بیز دارش مارکز کی ہوئی ہوتے مارکان کے تک مدون نیڈ بیز دارش مارکز کی ہوں میں او تحکان سے التا تال ہے کہ دو مند مرجد بالا مارکان کے تک مدون نیڈ بیز دارش مارکز کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوتے مرد کا کو ت مرد مراح کا کان کار مال کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئ	ینز، 12 ایم انی ماد دود کر اپتی میں رجز و ین کر بینز (2 ایم انی اود کر اپتی میں رجز و از یا ت کر مطا بق ا کی کی دفعہ (3) (2) ا لیے الا کو ہوتا ہے)۔ پکا م کر نے کے لیے رضا مدی داخل کر ۔ اروں کے در میان تیسیم کر مکل ہے ۔ ایک میں ایک کی دول اور اور اور اور اور اور ایس کی ایک مل ایک تک ہے دول اور مور المیون کی اور ایک ایک ایک ۔ میں کا کی بین کی تعداد کی تا سب کے ایک ایک ہے ۔ میں ایک نی کی دول ہو نے تک ایس سے ایک ایک ہیں ۔ ایک تک سے دوسول ہو نے تک ایس سے مال ایک تک سی میں کر دول ہو نے تک ایس سے دوسول ہو نے تک ایس سے دوسول ہو نے تک ایس سے در دول ہو نے تک ایس سے مطال ہو ۔ تی میں میں اور کہ دول ہو نے تک ایس سے مطال ہو ۔ تی میں میں ایک کر دوم آر دون یہ موسم کے مال کی ایک تک میں میں کر دوم آر دون یہ تی ایک ایک ہو ۔ میں ایک کی دول ہو نے تک ایس سے مطال ہو ۔ تی دول ہو نے تک ایس سے مطال ہو ۔ تی دول ہو تک ایک ہوں ۔ میں کی کی دول ہو نے تک ایس سے مطال ہو ۔ تی دول میں میں کر دول ہو میں ایک ہو ۔ میں کی تعداد کی است کے در میڈ ایک کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ہو ۔ میں کی تک کی دول ہو دو خال ہو ۔ تی دار تی تک ہو ہو کہ ہو کی اول ہو ۔ تی دول کی کی ملو ۔ سے قرار دار ہو دو دا دا لیے کی ایک ہو ۔ کی دار کی کو میا ہے وار ایک کی ہو ۔ کی دار تی تک ہو تی ہو ۔ کی دار ایک دول ہو تی ہو ۔ کی دار ایک دول ہو ۔ کی دول کی تک میں ہو ۔ کی دول کی تک ہو ۔ کی دول ہو تک ایک تو ۔ کی دول کی تک ہو ۔ کی دول کی تک ہو ۔ کی دول ہو تک دول ہو ۔ کی دول کی تک ہو ۔ کی دول ہو ۔ کی دول ہو تک ہو ۔ کی دول ہو ۔ کی دو) کوت کرا تا بول گی اور یا تو مارتی حسیب کوت کر تا بول گی اور یا تو مارتی حسیب کوت	جا الـ مندر بعد فی مطلو بد حتا و بز ال تی تین تیکر بیز کی و ذو آن کار پور یف کورنس) ریگر بیز کی 01 03 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	والا لذائر کمتر بو یا کونی اور، جو ایتم لز تا جا بتا <u>2 - تر بع</u> تر می شد و <u>م</u> معانی لز تا جا بتا <u>2 - تر بع</u> تر می شد و <u>م</u> معانی لز تا جا بتا <u>2 - تر بع</u> تر می شد و <u>م</u> معانی لز تا جا بتا <u>2 - تر بع</u> تر می می معانی لز تر کونی جا <u>2 - تر می م</u> می می می می می مراح کم <u>2</u> <u>2 - تر می </u>	زبان کیتری موجود مد = 20 تو به 20 2 با	ابر کیفرز کا تخاب ابر کیفرز کا تخاب ابر کیفرز کی انخاب ابر کیفرز کیفرز ابر ک
اب قس سرا سے تما ایم کی تاریخ سے چودہ لیے تو کو چیش سے تمار کی تاریخ سے پیر : لیے تو کو چیش کر نے سرار سے کا تو ش سرا کی جارت سرا سی تیگر کی میں ایک سرا کی جارت سی سرا سی تیگر کی میں ایک سروک لیے پر جور ہو گی ۔ میں کا تاب (تصمی کی تعداد) ایم ہے ہوا تی تابی کی جور ہو گی ۔ میں کا تاب (تصمی کی تعداد) ایم ہے ہوا تی تابی کر ہے کہ تار کر سال ند میں کا تاب (تصمی کی تعداد) ایم ہے ہوا تی تابی کی ہو تا کے تابی کر تا کہ کہ سال کہ ایک میں کا تاب (تصمی کی تعداد) ایم ہے ہو ہو تی ۔ کی دہر ذیل میں ایم کر کی کہ تار کی ۔ کی دہر ذیل میں ایم کر کی کہ تار کی ۔ کی دہر ذیل میں ایم کر کی کہ تار کی ۔ کی دہر ذیل میں ایم کر کی کہ تار کی ۔ کی دہر ذیل کی میں ایم کر کی ۔ کی دہر ذیل میں ایم کر کی کہ تار کی ۔ کی دہر ذیل میں ایم کر کی کہ تار کی ۔ کی دہر نہ کی میں ایم کر کی ۔ کی دہر ذیل میں کہ کہ تار کی ۔ کی دہر نہ کی کی کہ تار کی ۔ کی دہر نہ کی کی کہ تار کی ۔ کی دہر نہ کی کی کہ تار کی ۔ کی دہر نہ کی کہ تار کی کے ۔ کی دہر نہ کی کہ تار کی ۔ کی دہر نہ کی کہ تار کی کہ تار کی ۔ کی دہر نہ کہ کہ کہ کہ تار کہ ۔ کی دہر نہ کہ کہ کہ تار کی کہ تار کی ۔ کی دہر نہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ تار کی ۔ کی دہر نہ کی کہ تا کہ کے تار کی کہ تار کہ ۔ کی دہر نہ کی کہ تار کی ۔ کی دہر نہ کی کہ تار کی کہ تار کہ کہ ۔ کی دہر نہ کی کہ تار کی کہ تار کہ ۔ کی دہر نہ کی کہ تار کہ کہ ۔ کی دہر نہ کی کہ تار کی دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ تار کہ کہ تار کہ ہ ۔ کی دہر تار کی کہ تار کہ کہ تار کہ کہ تار کی کہ تار کی کہ تار کہ کہ تار کہ دی کہ دی کہ تار کہ کہ تار کی کہ تار کہ کہ تار کی کہ تار کی کہ تار کہ کہ تار کہ کہ تار کہ کہ تار کی کہ تار کہ کہ تار کہ کہ تار کی کہ تار کہ کہ کہ تار کہ کہ کہ تار کی کہ تار کہ کہ تار کہ کہ تار کہ کہ تار کی کہ تار کہ کہ تار	۲ من یا یا تام اور تصویر دو تر ایل یک سائند کر حالاتی مندرجد ذیل کلگر بیاں شرا انتخابات کے نی حالاتی مندرجد ذیل کلگر بیاں شرا انتخابات کے نی حالی مندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق تر ایک نی حکول ایل ایس تا مردو مندی کار کے مطابق تر ایک ج - رکن این قام دو مند کو ایک امید دار کرد - ج - رکن این قام دو مندی کی ایک امید دار کرد - ایک شل ایڈر لس بطر مدرو کی حصابی قرار تک کی اور مدر مندرجہ بال ما ملک کی ایک میں انتخاب ہے کہ دو مندرجہ بال کی با تک میں یا فقطان سے التماس ہے کہ دو مندرجہ بال کی با تک میں یا فقطان سے التماس ہے کہ دو مندرجہ بال کی با تک میں یا فقطان سے التماس ہے کہ دو مندرجہ بال کی با تک میں یا فقطان سے التماس ہے کہ دو مندرجہ بال کی با تک میں یا دین میں بار کو تک ہوئی ہوئی ہوئی ہوں تی کا کا تک میں دو تر ایک وی پائی جائے ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی	ینز، 12 ایم انی ماد دود بر ایم میں دینز وز ینز، 12 ایم انی ماد دود بر ایم میں دینز وز ین سے سے سطا بتی ایم سکی دفتہ (3) (15 اے لیے الا وہ ہوتا ہے)۔ پر کام کر نے کے لیے دختا مدی داخل کر اروں کے درمیان تیسم کر سکتا ہے۔ اروں کے درمیان تیسم کر سکتا ہے۔ ایک میں انے 2014 دو سے ڈال سکتا ہو ایک بی دائی کا بیسم کر سکتا ہے۔ اروں کے درمیان کو سے ماد میں ان ایک دو میں کہ میں کے مال در کا تو میں کی تعداد کی دائی کا تیسم میں ان ایک دو میں کہ میں کے مال میں ان میں میں دو میں کی دو میں ان میں ان میں ایک دو میں کی دو میں دو میں ایک اور ایک بیس سے در دو سے ذاتی ایس میں ایک دو دین دائی کی دو میں ایک دو میں ایک ایس میں ایک دو دین ایک دو میں ایک ایس میں ایک دو دین ایک دو میں دو میں ایک دو میں دو میں ایک دو میں ایک دو میں دو میں دو میں میں ایک دو میں دو میں ایک دو میں دو میں ایک دو میں ایک دو میں دو میں ایک دو میں ایک دو میں دو میں دو میں میں میں دو میں دو میں دو میں دو میں میں دو میں دو میں دو میں دو میں دو میں میں دو میں دو میں دو میں دو میں دو میں میں میں دو میں میں دو میں میں دو میں میں میں میں دو میں میں میں دو میں میں میں میں دو میں میں دو میں میں دو میں میں دو میں میں میں میں میں دو میں میں دو میں میں دو میں میں دو میں میں میں دو میں میں میں میں دو میں میں میں میں میں میں دو میں میں دو میں میں دو میں میں دو	کوتی کرا تا ہوں گی اور یا تو مارت حیب بر کوتی کر انا ہوں گی اور یا تو مارت حیب بر کوت کوتی کا ڈائر کیٹر بنے کے لیے کا الل کوت معند کی داخل کر نے دائے تھیں کے نے درخا معدد کی داخل کی نے دائے تھیں کے نے درخا معدد کی داخل کی تعلیم کی تحقیق کا تو ترین کی تلکی میں ایک نے دائے تھیں کے تو ترین کی تلکی میں ایک نے داد دامید و تو ترین کی تلکی میں ایک نے داد دامید و تو ترین کی تلکی میں ایک نے داد دامید و تو ترین کی تلکی میں ایک نے داد دامید و تو ترین کی تلکی میں ایک نے داد دامید و تو ترین کی تو تر دین ارتباط کو دامی کی داد دائی میں میں کے دریا دامید و تو ترین کی تو تو تا کا ذرین میں کہ داد دامید و تو ترین کی تو تو تا کی تر جنوا را میں کو داخل کی مرد میں کی ماحلان میں داد دائی کو دائی کی داد دائی میں میں کے دریا تھا ہوں کے درخل میں کی تو تو تا تو تا دائی دارین میں کہ دورا تھا ہوں کو دائی کی داد دائی میں میں کے دریا تھا ہوں کے درخل میں کی داد دائی میں میں کے دورا تھا ہوں کے درخل میں کی دورا تھا تی دائی ہوں کے دائی کے درخلی کا دائی کی میں الک دونا میں کے دورا تھا ہوں کے دائی دائی کی کی تو تا دونا دائی ہوں میں کہ دونا میں داد دائی ہوں کے دائی دائی کو دائی کی میں میں کی دورا دی تے میں دائی ہوں کے دائی کے دونے کا دائی کے دونا میں کے دونا میں داد دائی ہوں کے دائی دی کی دونے کو ماری کی کے دونا میں دائی ہوں دائی کے دونا میں دائی ہوں کے دائی دی کی دونے کی دائی کی میں میں کی دونا ہوں ہوں کے دائی دی کی تو دائی کی میں میں دونا ہوں کے تو دائی کے دونا ہوں ہوں کے دونا میں کے دونا ہوں ہوں کے دونا ہوں ہوں ہوں دونا ہوں ہوں ہوں دونا ہوں ہوں ہوں دائی ہوں دونا ہوں ہوں ہوں دونا ہوں ہوں کی دونا ہوں ہوں کی کے دونا ہوں ہوں ہوں دونا ہوں ہوں کی دونا ہوں ہوں دونا ہوں ہوں دونا ہوں ہوں ہوں دونا ہوں ہوں دونا ہوں ہوں کو دونا ہوں ہوں کو دونا ہوں ہوں کی دونا ہوں دونا ہوں ہوں کو دائی ہوں دونا ہوں ہوں دونا ہوں دونا ہوں ہوں کو دونا ہوں ہوں کو دونا ہوں ہوں کی کو دونا ہوں ہوں کی ہوں تے دونا ہوں ہوں کی کے دونا ہوں ہوں کو دونا ہوں ہوں کی کی ہوں تے ہوں کے دونا ہوں ہوں کی ہوں کو دونا ہوں ہوں کی ہوں کے دونا ہوں ہوں کی ہوں کے دونا ہوں ہوں کی ہوں تے لی لیں دونا ہوں ہوں کی ہوں کے لیکوں ہوں کی ہوں تے لی لیں دونا ہوں کی ہو تے لی ہوں کی ہوں کے	جا الـ حدد رجد فیل طلو بد حتا و بزات تیلی تکریز کروذا آن کار بور یت گرونس ایگر شهر و 2010 (1911د و از آن کار بور یت گرونس ایگر شهر و 2010 (1911010305نه و ان کار سور کار شان کی تحاور101031021031041051051061071071081091091091091001001001001011011021021031041041051051051061071071081091091091091001001001001011011021011021011021011021011021031031041051051051051061071071081081091091001001011011021031031041041051051051061061071071	والا لذائر کمتر بو یا کونی اور، جو ایتم از تا جا بتا 2 <u>مرد به بو</u> ترکی اور، جو ایتم از تا جا بتا 2 <u>مرد به بو</u> تم شدو <u>مرمان از ناخ بتا از تاخ</u> 2 <u>مرد به بو</u> تم شدو <u>مرمان از ناخ بتا از تاخ</u> 2 <u>مرد بی تاخ</u> 3 <u>مران تا</u> 3		ابر کیلز زمادتی بیلی کی برذ آن بیلی کی برذ آن بر کیلز کی این بر کیلز کیلی بر کیلز کیلی بیلی بر کیلز کیلی بی

NOTICE OF 62ND ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE OF 62ND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Sixty Second Annual General Meeting ('AGM') of the shareholders of Javedan Corporation Limited (the Company) will be held on Saturday, October 26, 2024 at 10:30 a.m. at Naya Nazimabad Gymkhana, Naya Nazimabad, Manghopir Road, Karachi to transact the following business

ORDINARY BUSINESS

- 1. To confirm minutes of the 61st Annual General Meeting held on October 27, 2023.
- 2. To receive, consider and adopt annual audited financial statements of the Company together with the Directors' and Auditors' Reports thereon for the year ended June 30, 2024, together with the Audited Consolidated Financial Statement of the Company and the Auditors' Report thereon for the year ended June 30, 2024.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 (Act) and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements have been uploaded on website of the Company, which can be downloaded from the following weblink or QR enabled code:

http://jcl.com.pk/financial-statements



- 3. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2025. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee have recommended for reappointment of M/s. Yousuf Adil Chartered Accountants and M/s. Reanda Haroon Zakaria Aamir Salman Rizwan & Co., Chartered Accountants as external auditors.
- 4. To consider and approve final cash dividend for the year ended 30 June 2024 @ 40% i.e. PKR 4 per ordinary share as recommended by the Board of Directors.
- 5. To elect 9 (nine) Directors, as fixed by the Board in accordance with the provision of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of 3 (three) years commencing from October 26, 2024. The following are names of the retiring Directors of the Company, who are also eligible to offer themselves for re-election in respective Director category (except for Mr. Alamgir A. Shaikh) as specified in regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the CCG-2019) as amended through SECP SRO 906(1)/2023, dated July 07, 2023:
 - 1. Mr. Arif Habib
 - 2. Mr. Abdus Samad Habib
 - 3. Mr. Muhammad Kashif
 - 4. Mr. Muhammad Ejaz
 - 5. Mr. Javed A. Kureishi
 - 6. Ms. Darakshan Zohaib
 - 7. Mr. Abdullah Ghaffar
 - 8. Mr. Abdul Qadir Sultan
 - 9. Mr. Alamgir A. Shaikh



SPECIAL BUSINESS

6. To authorize the Board of Directors of the Company to approve those transactions with Related Parties (if executed) during the financial year ending June 30, 2025 which require approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the companies Act, 2017 read with Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018, by passing the following special resolution with or without modification:

RESOLVED THAT

The Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case-to-case basis for the financial year ending June 30, 2025.

FURTHER RESOLVED THAT

The transactions approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders u/s 207 and / or 208 of the companies Act, 2017 read with Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018 (if triggered) and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval (if required).

7. To consider and if deemed fit, to pass the following Special Resolutions with or without modification(s):

Investment in Associated Companies & Associated Undertakings

RESOLVED THAT

the consent and approval be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, for the following limit of fresh investment in an associated company and undertaking for a period upto next annual general meeting, and subject to the terms and conditions as mentioned in the Annexure-A of Statement under Section 134(3)."

FURTHER RESOLVED THAT

the consent and approval be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 read with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 for renewal of following equity investments limits in associated companies and associated undertaking as are also mentioned in the Annexure-B of Statement under Section 134(3) against which approval had been sought in previous general meeting(s), upto unutilized amount, and for a period upto next annual general meeting, which shall be renewable in next annual general meeting(s) for further period(s)."

FURTHER RESOLVED THAT

the consent and approval be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 read with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 for renewal of following sanctioned limits of loans and/or advances and/or running finance and/or guarantees and/or third-party collateral in associated companies and associated undertakings, for which approval has been sought in previous general meeting(s), as mentioned in detail in the Annexure-B of statement under Section 134(3), whereas the renewal of limits will be in the nature of loan and/or advance and/or running finance and/or guarantee for a period upto next annual general meeting, unless specifically approved for a longer period, and shall be renewable in next annual general meeting(s) for further period(s) as specified."

S.No	Name of Associated Companies & Associated Undertakings	Equity	Loans / Advances / Guarantee	Unutilized Equity portion	Sanctioned Loan/ Advance/ Guarantee
		PKR in I	million	PKR ir	n million
1	Aisha Steel Mills Limited	-	-	500	1,000
2	Power Cement Limited	-	-	500	1,000
3	Arif Habib Limited	-	-	500	2,000
4	Fatima Fertilizer	-	-	1,000	-
5	Sapphire Bay Islamic Development REIT	-	-	2,536	3,000
6	Gymkhana Apartment REIT	-	-	1500	1000
7	Signature Residency REIT	-	-	-	165
8	Globe Residency REIT	-	-	1,499	679
9	Naya Nazimabad Apartment REIT	-	-	1,000	4,000
10	Park View Apartment REIT	250	-	-	-

FURTHER RESOLVED THAT

The Chief Executive and/or any two Directors jointly and/or any one Director and/or Chief Financial Officer and Company Secretary jointly by any two, be and are hereby authorized to take and do, and/or cause to be taken or done, any/all necessary actions, deeds `and things which are or may be necessary for giving effect to the aforesaid resolutions and to do all acts, matters, deeds, and things which are necessary, incidental and/or consequential to the investment of the Company's funds as above, as and when required at the time of investment, including but not limited to negotiating and executing any necessary agreements/documents, and any ancillary matters thereto.

ANY OTHER BUSINESS

8. To transact any other business with the permission of the chair.

A statement under section 134(3) of the Companies Act 2017 pertaining to agenda items No.5, 6 and 7 is Annexed for information of the Shareholders.

Karachi Dated: 04 October 2024

uneer

By Order of the Board Muneer Gader Company Secretary



NOTES:

- The share transfer books of the Company will remain closed from 18 October 2024 to 26 October 2024 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi – 74400 (Share Registrar) at the close of the business on Thursday, 17 October 2024, will be considered in time for attending the AGM and entitlement of the Dividend to ordinary shareholders.
- 2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
- 3. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I Reference No. 3 (5-A) Misc / ARO / LES / 96 dated January 26, 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan:
 - i. Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original computerized national identity card (CNIC) or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting
 - ii. In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution / power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced at the time of meeting
 - iii. In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of our registrar not later than 48 hours before the meeting, duly signed, stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
 - iv. In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners, witnesses and the proxy holder shall be furnished with the proxy form. A proxy must be a member of the Company.
 - v. In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution / power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form
- 4. Shareholders are requested to notify change in their addresses, if any, to our Share Registrar. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Service.
- 5. Updation of Email/Cell Numbers:

To comply with requirement of Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, all physical shareholders are requested to provide their email address, mobile number and notify change therein, if any to our Share Registrar for incorporation in our members register. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their email address and mobile number updated with their participant or CDC Investor Accounts Service.

6. Election of Directors:

The existing term of the Board of Directors of the Company will expire on 25 October 2024. The Board of Directors on 19 September 2024 has fixed the number of Directors at 9 (nine) to be elected in the AGM for the period of three years commencing from 26 October 2024 in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017.

For the election of Directors, any individual, whether a retiring Director or otherwise, who wishes to contest must submit the following required documents addressed to the Company Secretary and delivered either to the Registered Office at Arif Habib Centre, 23 M.T. Khan Road, Karachi, or the Site Office at Naya Nazimabad, Manghopir Road, Karachi not later than fourteen days before the date of AGM:

i. Notice of his/her intention to offer him/herself for the election in terms of Section 159(3) of the Act in the following categories as per the requirements of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the CCG-2019) as amended through SECP SRO 906(1)/2023, dated 07 July 2023:

Sr. No.	Category	Number of Seats
1	Female Director	01
2	Independent Directors	03
3	Other Directors	05

- ii. Consent to act as director under Section 167(1) of the Act on "Appendix to Form-9" as prescribed in the Companies Regulations, 2024.
- iii. A detailed profile of the candidates along with office address for placement on the Company's website, as required under SECP SRO 1196 (1)/2019, dated 03 October 2019.
- iv. Declaration under Section 155 of the Act read with Regulation No.3 of the CCG-2019.
- v. Declaration that he/she is not ineligible to become a Director of the Company in terms of Section 153, 177 or under any provision of the Companies Act, 2017, the CCC-2019, PSX Rule Book and any other applicable law, rules and regulations.
- vi. Declaration of independence in terms of Section 166(2) of the Companies Act, 2017 read with Regulation 6(3) of CCC-2019 (applicable only for person filing consent to act as independent director of the Company).
- vii. Undertaking on non-judicial stamp paper that candidate meets the requirements of Regulation 4(1) (7) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 (applicable only for person filing consent to act as independent director of the Company).
- viii. Details of other directorship and offices held.
- ix. Copy of valid CNIC (in case of Pakistan national) / Passport (in case of foreign national).
- x. NTN & Folio No./CDC Investors Account No./CDC Sub-Account No (applicable for person filing consent for the first time).

The members in their discretion may cast vote for any candidate contenting election in each of the above categories. However, it must be noted that the division of votes available to each member for a category shall be in proportion to the number of seats of Directors under such category. The member can cast their votes, based on each category, as per the following methodology:



Category	No of Directors to be Elected	No. of available votes for the category	Remarks
Female	1	1*100=100	If only one female contesting the election, then she will be elected unopposed. Otherwise, the member may cast 100 votes available in this category. The member may give all his/her votes to a single candidate or divide them between more than one candidate in this category.
Independent Directors	3	3*100=300	The member may give all his/ her votes to a single candidate or divide them between more than one candidate in this category.
Other Directors	5	5*1000=500	The member may give all his/ her votes to a single candidate or divide them between more than one candidate in this category.

If the number of persons who offer themselves to be elected in a category are not more than the number of directors to be elected in such category, such person will be elected unopposed without the voting process.

7. Online Participation in the Annual General Meeting:

In light of relevant guidelines issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide letter no. SMD/SE/2(20)/2021/117 dated December 15, 2021, the shareholders are encouraged to participate in the AGM through electronic facility arranged by the Company.

Accordingly, the company for ensuring maximum participation of the shareholders has made arrangements to ensure that shareholders can also participate in the AGM proceeding via video link. Hence, those members who desire online participation in the AGM are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of their CNIC at muhammad.adnan@jcl.com.pk with subject of "Registration for JCL AGM 2024" not less than 48 hours before the time of meeting:

Name of Shareholder	CNIC No	Folio No / CDC Account No	Cell No	Email Address

Video Link to join the AGM will be shared with only those members whose emails, containing all the required and correct particulars are received at above mentioned email address.

8. Notice to Shareholders for provision of CNIC and other details:

Members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company / Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99- B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give Folio Number with the copy of CNIC / NTN details.

9. Payment of Cash Dividend through Electronic Mode (Mandatory):

As per requirement of Section 242 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory for every listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. Consequently, to receive cash dividends directly into bank account, if any, shareholders having physical shares are requested to fill in 'Electronic Mode Dividend Form' available at Company's website containing prescribed details and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company. In case of book-entry securities, shareholders must get their respective records updated as per the 'Electronic Mode Dividend Form' with their Broker / Participant / CDC account services.

In case of absence / non-receipt of the copy of a valid CNIC and bank account details, the Company would be constraint under Section 243(2)(a) of the Companies Act, 2017 read with regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 to withhold the payment of dividends, if any, to such members till provision of prescribed details.

10. Details of Shareholding Proportion

Shareholders are requested that in case of joint account, please share proportionate shareholding in writing as follows with our share registrar within 15 days of this notice for record purpose:

			Participant Shareholder		Joint Shareholder	
Bank Name	Folio/CDC A/c. No.	Total No. of Shares	Name and CNIC No.	Shareholding Proportionate (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

11. Zakat Exemption:

Zakat will be deducted from the dividends at source at the rate of 2.5% of the paid-up value of the share (Rs. 10/- each) and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority. In case of claiming exemption, please submit your Zakat Declarations under Zakat and Ushr Ordinance, 1980 and Rule 4 of Zakat (Deduction and Refund) Rules, 1981. Shareholders who hold Company's shares in physical form, please deposit their Zakat Declaration on Form CZ-50 with Company's Share Registrar with mentioning Folio No. and Name. Shareholders who hold shares in book entry shall deposit their zakat declaration on Form CZ-50 with CDC Investor Account Services/CDC Participant/Stockbrokers with mentioning CDS Account No. and name of shareholder.

12. E-Voting / Postal Ballot:

Members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143-144 of the Companies Act, 2017 and SRO 2192(1)/2022 dated 5th December 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business(es) in accordance with the conditions as specified in the said regulations.

As the agenda item No. 5 is pertain to Election of Directors and agenda items No.6 and 7 of the Annual General Meeting are special business, therefore, facility of e-voting or postal ballot is arrange for the shareholders through M/s. THK Associates (Private) Limited, Balloter and e-voting service providers. The procedure for exercising e-voting or Postal Ballot options, alternatively is provided hereunder:



- i) E-Voting Procedure
 - (a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on 17 October 2024.
 - (b) The web address, login details and password will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS and email from web portal of the e-voting service provider.
 - (c) Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
 - (d) E-Voting lines will start from 23 October 2024, 09:00 a.m. and shall close on 25 October 2024 at 05:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.
- ii) Postal Ballot
 - (a) Members may alternatively opt for voting through postal ballot. Ballot Paper shall also be available for download from the website of the Company at www.jcl.com.pk or use the same published in newspapers.
 - (b) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Registered Address through post at Arif Habib Centre, 23 M. T. Khan Road, Karachi (Attention of the Company Secretary) or through the registered email address of shareholder at muhammad.adnan@jcl.com.pk with subject of 'Postal Ballot for 'JCL AGM 2024' by Friday, 25 October 2024 before 05:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting.
 - (c) Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding authority.

Note:

In accordance with the Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board of the Company has appointed M/s. Reanda Haroon Zakaria Aamir Salman Rizwan & Co. Chartered Accountants, (a QCR rated audit firm) to act as the Scrutinizer of the Company for the businesses to be transacted in the meeting (Agenda # 5 and Agenda # 7 pertaining Election of Directors and approval for Investments in associates under section 199 of the Companies Act, 2017 respectively), and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

13. Provision of Video Link Facility:

In accordance with Section 134 (1) (b) of the Companies Act, 2017 the Shareholders may participate in the meeting via video-link facility. If the Company receives a demand (at least 7 days before the date of meeting) from shareholder(s) holding an aggregate 10% or more shareholding residing in any other city, to participate in the meeting through video link, the Company will arrange video link facility in that city. Shareholders, who wish to participate through video-link facility, are requested to fill in Video Link Facility Form available at Company's website at the given link: https://jcl.com.pk/investors-information/#Video-link-facility-form and send a duly signed copy to the Registered Address of the Company.

14. Distribution of Annual Report:

The Annual Report of the Company for the year ended 30 June 2024 has been placed on the Company's website at the given weblink: http://jcl.com.pk/financial-statements and could also be downloaded from above QR code.

However, if a shareholder, in addition, requests a hard copy of Annual Report, the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request. For convenience of shareholders, a "Standard Request Form for provision of Annual Report" has also been made available on the Company's website www.jcl.com.pk.

15. Deposit of Physical shares in CDC Accounts:

The SECP, through its letter No.CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated 26 March 2021, has advised the listed companies to adhere with the provisions of the Section 72 of the Act, which requires all the exiting companies to replace shares issued by them in physical form with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act 2017 i.e. 30 May 2017. The shareholders having physical shareholding are requested to open CDC sub-account with any of the brokers or investors account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form.

16. Unclaimed Dividend:

Pursuant to Section 244 of the Act, any shares issued, or dividends declared by the Company, which remain unclaimed for a period of three years from the date they became due and payable shall rest with the Federal Government after completion of procedure prescribed under the Act.

In this respect, Shareholders, who by any reason, could not claim their previous dividends are advised to contact our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, to collect/enquire about their unclaimed dividend, if any. The details of the dividend declared by the Company which have remained due for more than three years are available on the Company's website www.jcl.com.pk.

17. Form of Proxy is enclosed and uploaded on the Company's website www.jcl.com.pk.



STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Election of Directors in Agenda No.5 and Special Business given in Agenda items No. 6 and 7 of the Notice to be transacted at the Annual General Meeting of the Company. Directors of the Company have no interest in the special business except in their capacity as director / shareholder.

AGENDA NO.5

ELECTION OF DIRECTORS

The existing term of the Board of Directors of the Company will expire on 25 October 2024. The Board of Directors on 19 September 2024 has fixed the number of Directors at 9 (nine) to be elected in the AGM for the period of three years commencing from 26 October 2024 in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017.

The following are names of the retiring Directors of the Company, who are also eligible to offer themselves for re-election in respective Director category (except for Mr. Alamgir A. Shaikh) as specified in regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the CCG-2019) as amended through SECP SRO 906(I)/2023, dated 07 July 2023:

- 1. Mr. Arif Habib
- 2. Mr. Abdus Samad Habib
- 3. Mr. Muhammad Kashif
- 4. Mr. Muhammad Ejaz
- 5. Mr. Javed Kureishi
- 6. Ms. Darakshan Zohaib
- 7. Mr. Abdullah Ghaffar
- 8. Mr. Abdul Qadir Sultan
- 9. Mr. Alamgir A. Shaikh

As required under Section 166(3) of the Companies Act, 2017, Independent Directors will be elected through the process of election of Directors as other Directors elected in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166 (1 & 2) of the Act read with Regulation 6(3) of the CCG Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. Further, disclosure requirements as stipulated in SRO 1196(I)/2019 dated 03 October 2019 pertaining to Election of Directors shall be duly complied with.

AGENDA NO.6

AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO APPROVE THOSE TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (IF EXECUTED) DURING THE FINANCIAL YEAR ENDING 30 JUNE 2025 WHICH REQUIRE APPROVAL OF SHAREHOLDERS U/S 207 AND / OR 208 OF THE COMPANIES ACT, 2017

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending 30 June 2025 on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. Being the directors of a real estate builder and developer Company, many Directors may be deemed to be treated as interested in transactions with related parties due to their common directorships and/or shareholding. In order to promote good corporate governance and transparent business practices, the shareholders desire to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case to case basis, including transactions (if executed) triggering approval of shareholders u/s 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017, for the year ending 30 June 2025, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above. These transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting

for their formal approval/ratification. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their shareholding and / or common directorships in such related parties.

ANNEXURE-A

AGENDA NO.7

INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES & ASSOCIATED UNDERTAKINGS

The Board of Directors of the Company has approved the specific limit for fresh equity investment in the following associated company subject to the consent of members under Section 199 of the Companies Act, 2017 / Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017. The Board of Directors do hereby undertake / certify that necessary due diligence for the following proposed investment has been carried out. The principal purpose of this special resolution is to make the Company in a ready position to capitalize the investment opportunity as and when it arrives. It is prudent that the Company should be able to make the investment at the right time when the opportunity is available, and the limit shall be valid till the holding of the next annual general meeting with the option of renewal thereon.

Ref. No.	Requirement	Information					
Inform	Information required to be disclosed as per Regulation 3(1)(a):						
i	Name of associated company or associated undertaking	Park View Apartment REIT ("PVAR REIT")					
ii	Basis of relationship	PVAR REIT is managed by Arif Habib Dolmen REIT Management Limited and company has common directorship with REIT management company.					
iii	Earnings per share (Basic) for the last three years	The REIT has been registered on 20 June 2023. The first financial statement of REIT for the year ended 30 June 2024 are in process of annual audit. Therefore, this information is not available					
iv	Break-up value of share, based on the latest audited financial statements	The REIT has been registered on 20 June 2023. The first financial statement of REIT for the year ended 30 June 2024 are in process of annual audit. Therefore, this information is not available					
v	Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements	The REIT has been registered on 20 June 2023. The first financial statement of REIT for the year ended 30 June 2024 are in process of annual audit. Therefore, this information is not available					
vi	 In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, prescribed details thereof i) Description of the project and its history since conceptualization; ii) Starting date and expected date of completion of work; iii) Time by which such project will become commercially operational iv) Expected time by which the project shall start paying return on investment; and v) Funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts. 	Not Applicable					



Ref. No.	Requirement	Information	
vii	Maximum amount of investment to be made	Following limits are requested for approval: - Fresh limit of PKR 250 million is requested for approval in equity securities.	
viii	Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment	For the benefit of the Company and to earn better returns on investment by capturing the opportunitie on the right time. Approval of limit shall remain val for a period up to next annual general meeting an shall be renewable thereon for further period(s).	
ix	 Sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds Justification for investment through borrowing Detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds Cost benefit analysis 	 The investment may be made from Company's or available liquidity and/or credit lines. Higher rate of return Pledge of listed securities and / or charge or assets of the Company, if and where needed. Company's average borrowing cost is 3MK/61 + 1.36% and the Company expects to earn or and above the average borrowing cost. 	
х	Salient feature of agreements (if any) with associated company or associated undertaking with regards to proposed investment	There is no agreement to date.	
xi	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration	Directors of the company have no interest in the investee company except in their capacity as sponsor / director / shareholder of associated company	
xii	In case an investment in associated company has already been made, the performance review of such investment including complete information / justification for any impairments / write-offs	Not Applicable	
xiii	Any other important details necessary for the members to understand the transaction	None	
Inform	ation required to be disclosed as per Regulation	on 3(1)(b):	
xiv	Maximum price at which securities will be acquired	At par/premium/negotiated price prevailing on the date of transaction/investment	
xv	In case the purchase price is higher than market value in case of listed securities and fair value in case of unlisted securities, justification thereof	Not applicable	
xvi	Maximum number of securities to be acquired	No. of securities purchasable under approved limit in accordance with / based on Sr. Nos. VII & XIV	
xvii	Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment	Before: Nil After: Increase in securities / percentage in accordance with Sr. Nos. VII, XIV and XVI.	

Ref. No.	Requirement	Information
xviii	Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities; and	Not Applicable
xix	Fair value determined in terms of sub-regulation (1) of regulation 5 for investments in unlisted securities	Regulation 5(1) of Companies (Investment in associated Companies & Associated undertakings) Regulations 2017 provides that in case of investment in un-listed securities of an associated company or undertaking, the fair value for such security shall be determined based on the generally accepted valuation techniques and latest financial statement of the associated company. Therefore, the investment will be carried out based on fair value determined as above at the time of transaction.

Following directors of the company have no interest in the investee company except as follows:

Mr. Arif Habib	•	Director and or Shareholder of Arif Habib Dolmen REIT Management Limited (the REIT Management Company) of Parkview Apartment REIT
Mr. Muhammad Ejaz	•	Chief Executive of Arif Habib Dolmen REIT Management Limited (the REIT Management Company) of Parkview Apartment REIT
Mr. Samad A. Habib	•	Director and or Shareholder of Arif Habib Dolmen REIT Management Limited (the REIT Management Company) of Parkview Apartment REIT

Annexure B

Statement u/s 134(3) of Companies Act 2017 in compliance with Regulation 4(2) of Companies (Investment in Associated Companies & Associated Undertakings) Regulations, 2017 for decision to make investment under the authority of resolution passed earlier pursuant to provisions of Section 199 of Companies Act 2017 is not implemented fully or partially:

The Company in its previous general meetings had sought approvals under section 199 of the Companies Act, 2017 for investments in the following Associated Companies and Associated Undertakings in which investment has not been made so far, either fully or partially. Approval of renewal of unutilized portion of equity investments and sanctioned limit of (loans and or advances and or running finance and or third-party collateral and or guarantee) are also hereby sought for the companies, in which directors of the company have no interest except in their capacity as director / shareholder, as per following details for a period upto next annual general meeting, unless specifically approved for a longer period in 61st AGM held in 2023, the already approved respective limits for (loans and or advances and or running finance and or third-party collateral and or guarantee) were approved to be consolidated, and accordingly the Company may utilize the consolidated limit at its discretion for extending (loans and or advances and or running finance and or running finance and or third-party collateral and or third-party collateral and or guarantee) were approved to be consolidated, and accordingly the Company may utilize the consolidated limit at its discretion for extending (loans and or advances and or running finance and or running finance and or third-party collateral and or guarantee); provided that sum of respective natures of investments so extended does not exceed the already approved investment limit in the aggregate:



Name of associated company / undertaking: Aisha Steel Mills Limited

S. No	Description	Equity Securities			nces / Running Guarantee
a)	Total investment approved		500,000,000		1,000,000,000
b)	Amount of investment made to date		-		-
c)	Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time: and	the interest of the shareholders for utilization of approved limit,		Facility is in nature of loans/advances/runnin finance/guarantee and will b availed by the associate company as per requirement an Company will utilize based on th need and in the interest of shareholders.	
d)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company:	2023	2022	2023	2022
i	(Loss)/Earnings per share - basic	(3.56)	1.27	(3.56)	1.27
ii	Net Profit/(Loss)	(3,215,653,000)	1,146,113,000	(3,215,653,000)	1,146,113,000
iii	Shareholders' Equity	15,691,715,000	14,035,553,000	15,691,715,000	14,035,553,000
iv	Total Assets	38,046,164,000	46,804,817,000	38,046,164,000	46,804,817,000
v	Break-up Value	16.87	15.18	16.87	15.18
	Renewal in Previous Limits Requested for Portion I.E	Unutilized: 500,	000,000	Sanctioned: 1,00	00,000,000

Name of associated company / undertaking: Power Cement Limited

S. No	Description	Equity Securities			nces / Running Guarantee
a)	Total investment approved		500,000,000		1,000,000,000
b)	Amount of investment made to date		-		-
c)	Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time: and	the interest of the shareholders for utilization of approved limit,		Facility is in nature of loans/advances/running finance/guarantee and will b availed by the associated compa as per requirement and Compa will utilize based on the need ar in the interest of shareholders.	
d)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company:	2023	2022	2023	2022
i	(Loss)/Earnings per share – basic & diluted	(0.19)	(0.62)	(0.19)	(0.62)
ii	(Loss)/Net Profit	168,993,000	(443,946,000)	168,993,000	(443,946,000)
iii	Shareholders' Equity	17,568,027,000	17,283,455,000	17,568,027,000	7,283,455,000
iv	Total Assets	48,530,623,000	46.448.732.000	48.530.623.000	46,448,732,000
v	Break-up Value	7.61	7.40	7.61	7.40
	Renewal in Previous Limits Requested for Portion I.E	Unutilized: 500,000,000		Sanctioned: 1,000,000,000	

Name of associated company / undertaking: Arif Habib Limited

S. No	Description	Equity S	Equity Securities		nces / Running Guarantee
a)	Total investment approved		500,000,000		2,000,000,000
b)	Amount of investment made to date		-		-
c)	Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time: and	the interest of	ppropriate time in the shareholder approved limit,	sloans/advan finance/guarant availed by company as p and Company v	n nature of a c e s / r u n n i n g see and will be the associated per requirement will utilize based d in the interest
d)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company:	2023	2022	2023	2022
i	Earnings per share basic & diluted	2.83	12.65	2.83	12.65
ii	Net Profit	184,672,102	826,551,794	184,672,102	826,551,794
iii	Shareholders' Equity	4,994,252,286	5,201,620,184	4,994,252,286	5,201,620,184
iv	Total Assets	7,785,230,947	8,985,828,345	7,785,230,947	8,985,828,345
v	Break-up Value	76	84	76	84
	Renewal in Previous Limits Requested for Portion I.E	Unutilized: 500	0,000,000	Sanctioned: 2,	000,000,000

Name of associated company / undertaking: Fatima Fertilizer Company Limited

S. No	Description	Equity Securities		Loans / Advances / Running Finance / Guarantee
a)	Total investment approved	1,000,000,000		N/A
b)	Amount of investment made to date	-		N/A
c)	Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time: and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for utilization of approved limit,		N/A
d)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company:	2023	2022 (Restated)	N/A
i	Earnings per share – basic & diluted	10.67	6.81	N/A
ii	Net Profit	22,399,399,000	14,301,979,000	N/A
iii	Shareholders' Equity	118,365,983,000	107.089.184.000	N/A
iv	Total Assets	230,766,831,000	231,094,617,000	N/A
v	Break-up Value	56.36	51.91	N/A
	Renewal in Previous Limits Requested for Portion I.E	Unutilized: 1,000,0	00,000	N/A

Name of associated company / undertaking: Sapphire Bay Islamic Developmental REIT

S. No	Description	Equity Securities	Loans / Advances / Running Finance / Guarantee
a)	Total investment approved	6,000,000,000	3,500,000,000
b)	Amount of investment made to date	3,464,347,000	-
c)	Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time: and	Unutilized limit of investment will be made as project in progress ahead an investment requirement is needed.	Facility is in nature of loans/advances/running finance/guarantee and will be availed by the associated company as per requirement and Company will utilize based on the need and in the interest of shareholders.
d)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company:	70 7.00 2027	30 June 2022
i	Earnings per share basic & diluted	N/A	N/A
ii	Net Profit	N/A	N/A
iii	Shareholders' Equity	N/A	N/A
iv	Total Assets	N/A	N/A
v	Break-up Value	N/A	N/A
	Renewal in Previous Limits Requested for Portion I.E	Unutilized: 2,535,653,000	Sanctioned: 3,000,000,000

Name of associated company / undertaking: Gymkhana Apartment REIT

S. No	Description	Equity Securities	Loans / Advances / Running Finance / Guarantee	
a)	Total investment approved	4,867,500,000	2,840,000,000	
b)	Amount of investment made to date	-	-	
c)	Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time: and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for utilization of approved limit,	will be availed by the	
d)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company:	70 7.000 2027	30 June 2022	
i	Earnings per share basic & diluted	N/A	N/A	
ii	Net Profit	N/A	N/A	
iii	Shareholders' Equity	N/A	N/A	
iv	Total Assets	N/A	N/A	
v	Break-up Value	N/A	N/A	
	Renewal in Previous Limits Requested for Portion I.E	Unutilized: 1,500,000,000	Unutilized: 1,000,000,000	

Name of associated company / undertaking: Signature Residency REIT

S. No	Description	Equity Securities	Loans / Advances / Running Finance / Guarantee
a)	Total investment approved	132,500,000	660,000,000
b)	Amount of investment made to date	132,500,000	495,000,000
c)	Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time: and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for utilization of approved limit,	Facility is in nature of loans/advances/running finance/guarantee and will be availed by the associated company as per requirement and Company will utilize based on the need and in the interest of shareholders.
d)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company:	70 3.00 2027	30 June 2022
i	Earnings per share basic & diluted	-	N/A
ii	Net Loss	(12,353,000)	N/A
iii	Shareholders' Equity	317,647,000	N/A
iv	Total Assets	1,576,744,000	N/A
v	Break-up Value	-	N/A
	Renewal in Previous Limits Requested for Portion I.E	100% approved limit is already utilized.	Sanctioned: 165,000,000

Name of associated company / undertaking: Globe Residency REIT

S. No	Description	Equity Securities	Loans / Advances / Running Finance / Guarantee
a)	Total investment approved	3,000,000,000	3,500,000,000
b)	Amount of investment made to date	1,501,200,000	2,821,000,000
c)	Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time: and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for utilization of approved limit,	
d)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company:	70 7	30 June 2022
i	Earnings per share basic & diluted	1.936	2.445
ii	Net Profit	271,083,000	342,360,000
iii	Shareholders' Equity	1,855,490,000	1,584,407,000
iv	Total Assets	4,113,180,000	4,049,813,000
v	Break-up Value	13.25	11.32
	Renewal in Previous Limits Requested for Portion I.E	Unutilized: 1,498,000,000	Unutilized: 679,000,000



Name of associated company / undertaking: Naya Nazimabad Apartment REIT

S. No	Description	Equity Securities	Loans / Advances / Running Finance / Guarantee
a)	Total investment approved	6,500,000,000	4,000,000,000
b)	Amount of investment made to date	2,937,500,000	4,000,000,000
c)	Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time: and	Waiting for an appropriate time in the interest of the shareholders for utilization of approved limit,	Facility is in nature of loans/advances/running finance/guarantee and will be availed by the associated company as per requirement and Company will utilize based on the need and in the interest of shareholders.
d)	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company:	70 7.000 2027	30 June 2022
i	Loss per share - basic & diluted	(0.158)	N/A
ii	Net Loss	(46,270,000)	N/A
iii	Shareholders' Equity	2,891,230,000	N/A
iv	Total Assets	5,863,981,000	N/A
v	Break-up Value	-	N/A
	Renewal in Previous Limits Requested for Portion I.E	Unutilized: 1,000,000,000	Sanctioned: 4,000,000,000

Form of Proxy 62nd Annual General Meeting

The Company Secretary		
Javedan Corporation L	Limited	
Arif Habib Centre		
23, M.T. Khan Road		
Karachi.		
I/we	of	being a member(s)
of Javedan Corporation L	imited holding	ordinary shares as per
CDC A/c. No	hereby appoint Mr./Mrs./Miss	
	of (full address)	
		or failing him/her
Mr./Mrs./Miss		of (full address)

(being member of the company) as my/our Proxy to attend, act vote for me/us and on my/our behalf at the Sixty Second Annual General Meeting of the Company to be held on October 26, 2024 10:30 am and/or any adjournment thereof.

Signed this	day of	2024.	
Witnesses:			[
1. Name : Address : CNIC No. : Signature :			Signature on Rs. 5/- Revenue Stamp

NOTES:

- 1. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
- 2. Proxy shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC / passport and bring folio number at the time of attending the meeting.
- In order to be effective, the proxy Form must be received at the office of our Registrar CDC Share Registrar Services Limited Share Registrar Department, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal, Karachi, not less than 48 hours before the meeting duly signed and stamped and witnessed by two persons with their signature, name, address and CNIC number given on the form.
- 4. In the case of individuals attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy Form.
- 5. In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy Form.

	ېراكسى فارم
	62 nd سالانه جزل اجلاس
ضلع	میں مسلمی / مسما ۃ۔۔۔۔۔۔۔
_	مسلمی / مسماً ة
	ساکنکوبطو یومختار(پراکسی)
۔ ہاہے اس م ی ں یااس کے	سالانه اجلاسِ عام جوبتاريخ 26 اکتوبر ، 2024 صبح 10:30 بج منعقد ہور
	کسی ملتوی شدہ اجلاس میں نثر کت کرے اور ووٹ ڈالے –
2024	د ستخط:بروز/ بتاريخ
	گواہان:
2	1
نام:	نام:
<i>x</i> ,	<i>x</i> ,
شناختی کارڈنمبر:۔۔۔۔۔ ایستندر م	شاختی کارڈنمبر:۔۔۔۔۔۔
د شخط۵ روپے د شخط: ریوینیواسٹیمپ	وستخط:
	نوب :
	وہ رُکن جسے بیاجلاس یا اجلاس میں ووٹ کاخق حاصل ہے وہ کسی نا گز بر صور خ
ی میں شریک ہوسکتا ہے،خطاب کرسکتا ہے یا ووٹ کا اندراج	سکتا ہے کہ وہ رُکن اُس کی پراکسی استعال کرتے ہوئے ، اُس کے بجائے اجلا ^س
	کرسکتا ہے۔
ا ز می ہے ت ا کہ اجلاس می ں شرکت کی اجازت سے قبل اُس کی	پراکسی ثابت کرنے کے لئے اُسے اپنااصل پاسپورٹ اور فولیونمبر سے دکھا ناا
مر و الم مراجع محملة من المراجع	شناخت کی جاسکے۔ برش برنی سرائی سکتیں وزیر میں میں میں میں کی دائیں
**	مئوثر بنانے کے لئے، پراکسی فارم ہمارے رجسٹرا رکے دفتر (ایم/الیر مارٹر بنانے کے لئے، پراکسی قارم ہمارے رجسٹرا رکے دفتر (ایم/الیر
	ڈیپارٹمنٹ، تی ڈی تی ہاؤس،B-99، ایس،ایم، تی ،ایچ ،ایس، شاہراہِ فیصر مہار باب ہو میں زید ملبہ تارید طلبہ موال میں کر سے بیتوں میں ن
بر دو نواہان کی بنیادی معلومات یکی نام پیے ،دسمخط اور شنا کی	وصول ہونالازمی ہے۔فارم میں تمام مطلوبہ معلومات، رُکن کے دستخط اورمہر، نیے کا پڑنمہ سان باحض ہوئی ہو
اتص بق ش دفقا بنید) کر الازمی بیر	کارڈنمبرکااندراج ضروری ہے۔ انفر دی رُکن کی صورت میں اصل اونراور پراکسی کے شناختی کارڈیا پاسپورٹ کی
	ہ اگر دی رس کی عورت یں اس اور اور پر اس کے سام کی اردیا پا چورٹ کی پراکسی کے کا رپوریٹ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائیر یکٹر کی قرارداد
	نې د ال کې د پردیک بول کې کورک یې بورو کې د میرو کې د میرو کې کورو د نقول، پراکسي فارم کے ساتھ منسلک کرنا ضروري ہے۔